



# ہمسائیوں کے حقوق



تالیف

خواجہ محمد رفیع الاسلام

(ایم۔ اے)

منیر احمد کوٹلی

مدیر اعلیٰ ماہنامہ "بیتناہ اسلام" لاہور

تالیف

لئے کا پتا

جامعہ مسیحیہ انجیلیہ  
B-III بلاک 977-A گجر پورہ (چائینہ) سکیم لاہور  
042-36880027-28,0300-4274936

## جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب : ہمسایوں کے حقوق

مؤلف : منیر احمد یوسفی (ایم۔ اے)

مدیر اعلیٰ ماہنامہ سیدھا راستہ لاہور۔

کمپوزر و ڈیزائنر : محمد عثمان علی یوسفی، حافظ محمد عظیم احمد یوسفی

کمپوزنگ : ابوبکر کمپیوٹر سینٹر 28-042-36880027

پروف ریڈنگ : مفتی علامہ حافظ صاحبزادہ حافظ خلیل احمد یوسفی

رشید احمد جنجوعہ یوسفی، مفتی علامہ حافظ محمد آصف یوسفی

مفتی علامہ حافظ محمد رضوان انور یوسفی

سن اشاعت پہلی مرتبہ : ۱۱۰۰ جمادی الاول ۱۴۰۲ھ

سن اشاعت دوسری مرتبہ : ۱۱۰۰ جمادی الاول ۱۴۰۷ھ

سن اشاعت تیسری مرتبہ : ۲۱۰۰ رجب المرجب ۱۴۱۵ھ

ہدیہ : ۱۰۰ روپے

ناشرین : صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی (ایم۔ سی۔ ایس)

مفتی علامہ حافظ صاحبزادہ خلیل احمد یوسفی زمزمی

صاحبزادہ محمد ابوبکر صدیق یوسفی زمزمی

ویب سائٹ ایڈریس : [www.seedharastah.com](http://www.seedharastah.com)

ای۔ میل ایڈریس : [info@seedharastah.com](mailto:info@seedharastah.com)

## فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۔	جملہ حقوق۔	۲
۲۔	فہرست مضامین۔	۳
۳۔	بفیضانِ نظر۔	۶
۴۔	انتساب۔	۷
۵۔	پیش لفظ۔	۸
۶۔	حرفِ آغاز۔	۱۰
۷۔	ہمسایہ کون ہے؟	۱۲
۸۔	ہمسایوں کے حقوق۔	۱۴
۹۔	کہاں تک کے ہمسایوں کا لحاظ رکھا جائے؟	۱۵
۱۰۔	پڑوسیوں کے حقوق چالیس گھروں تک۔	۱۵
۱۱۔	ہمسائے کا اکرام۔	۱۶
۱۲۔	ہمسائے کے بارے میں وصیت۔	۱۷
۱۳۔	ہمسائے کو ایذا نہ دو۔	۱۷
۱۴۔	واللہ وہ مومن نہیں۔	۱۸
۱۵۔	اللہ ﷻ کی قسم مومن نہیں ہوگا۔	۱۸
۱۶۔	مومنِ کامل کون ہے؟	۲۰
۱۷۔	ایک اور روایتِ مبارکہ۔	۲۲
۱۸۔	ایک اور روایتِ مبارکہ۔	۲۲
۱۹۔	ایک انسان کی سعادت۔	۲۳
۲۰۔	ایک اور روایتِ مبارکہ۔	۲۳
۲۱۔	ہمسائے کو تحفہ۔	۲۴
۲۲۔	پڑوسی کو وارث بنانے کا گمان۔	۲۴
۲۳۔	ہمسائے پر عنایتِ ربّانی۔	۲۶

- ۲۴۔ غریب پڑوسی کو کپڑے نہ دینے والا امیر پڑوسی۔
- ۲۵۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تین چیزیں۔
- ۲۶۔ پڑوسی کا پڑوس اچھا نبھانے والے کی شان۔
- ۲۷۔ تین تکلیف دہ چیزیں۔
- ۲۸۔ پڑوسی اور ایمان۔
- ۲۹۔ پڑوسی کے ایمان کی پہچان۔
- ۳۰۔ بہترین ساتھی اور بہترین پڑوسی۔
- ۳۱۔ ہمسائے کو اذیت پہنچانے والا کون؟
- ۳۲۔ جنت میں داخلہ بند۔
- ۳۳۔ پڑوسی کو تنگ کرنے والے کیلئے جنت میں داخلہ بند۔
- ۳۴۔ پڑوسی کا حق۔
- ۳۵۔ بُرے ہمسائے سے پناہ۔
- ۳۶۔ قیامت کے قیام کا سبب۔
- ۳۷۔ ہمسائی عورت کو ذلیل نہ سمجھنا۔
- ۳۸۔ ہمسائے کی وجہ سے ہلاکت۔
- ۳۹۔ رسول کریم ﷺ سے ہمسائے کے بارے میں مدد۔
- ۴۰۔ کامل مومن بننے کا نسخہ۔
- ۴۱۔ عورت یا گھر میں نحوست۔
- ۴۲۔ عورت کی برکت۔ عورت کی نحوست۔
- ۴۳۔ مکان کی برکت۔ مکان کی نحوست۔
- ۴۴۔ ہمسائے کو بکری کے معاملہ میں بھی دُکھ نہ پہنچاؤ۔
- ۴۵۔ سو ہمسایوں کی بلائیں دُور۔
- ۴۶۔ شور بہ زیادہ بنانا۔
- ۴۷۔ ہمسایوں میں سے ترجیح۔
- ۴۸۔ ہمسائے پر ظلم و زیادتی کے گناہ کی سختی۔

- ۴۹۔ بڑے گناہ۔
- ۵۰۔ اچھائی اور بُرائی پر پڑوسی کی گواہی۔
- ۵۱۔ ہمسائے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ہدایت۔
- ۵۲۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ۔
- ۵۳۔ قیامت کے دن ہمسائے کے خلاف شکایت۔
- ۵۴۔ پڑوسی کے بارے میں پوچھ گچھ۔
- ۵۵۔ ہمسائے کی دیوار کے ساتھ پیشاب کرنے والے کو تنبیہ۔
- ۵۶۔ گھر بنانے سے پہلے ہمسایہ ڈھونڈو۔
- ۵۷۔ ہمسائے کی حمایت میں مرنے والا شہید ہے۔
- ۵۸۔ سب سے بڑی خیانت۔
- ۵۹۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم محبت فرماتا ہے۔
- ۶۰۔ دس اچھی عادات۔
- ۶۱۔ اذیت دینے والا پڑوسی۔
- ۶۲۔ دو بدترین ہمسائے۔
- ۶۳۔ خوش خلق اور بد خلق ہمسائیوں کا واقعہ۔
- ۶۴۔ ہمسائے کی تکلیف پر صبر اور خاموش احتجاج۔
- ۶۵۔ چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح۔ ایک اور واقعہ۔
- ۶۶۔ ہمسائے کی دیوار اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔
- ۶۷۔ دہلی کے حاکم کا واقعہ۔
- ۶۸۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔
- ۶۹۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔
- ۷۰۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ۔
- ۷۱۔ پڑوسی کی اقسام اور غیر مسلم پڑوسی کا حق۔
- ۷۲۔ پڑوسی کا یہ حق بھی ہے کہ اُس کی تعلیم و تربیت کی جائے۔
- ۷۳۔ احتیاطیں اور مروّتیں۔

## بفیضانِ نظر

قطبِ جلی، پیرِ طریقت، رہبرِ شریعت،  
نیرِ اوجِ شرافت، مصرِ محبت، زبدۃ العارفین،  
پیکرِ ایثار و وفا، عاشقِ رسول، فنا فی الرسول،  
پروانہٗ توحید و رسالت، امینِ علمِ لدنی،  
نائبِ غوثِ الثقلین، منظورِ نظرِ داتا گنج بخش  
حضرت قبلہ علامہ مولانا

حاجی محمد یوسف علی صاحبِ نگینہ

نقشبندی، مجددی، قادری، چشتی، سہروردی  
قدس سرہ العزیز

مرکزِ انوار و تجلیات

آستانہ عالیہ پیلے گوجراں شریف چک نمبر ۷۶-اگ-ب، تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد

## انتساب

بندہ ناچیز اپنی اس کتاب کو اُن اہل ایمان کے نام منسوب کرتا ہے جو نبی کریم ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔

نیاز کیش  
منیر احمد یوسفی عفی عنہ

## پیش لفظ

اسلام آفاقی دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر اسلام نے مکمل روشنی نہ ڈالی ہو۔ دین اسلام نے جہاں انفرادی فلاح و بہبود کے لئے رہنما اصول عطا فرمائے ہیں وہاں اجتماعی طور پر معاشرہ میں ہم آہنگی اور فلاح و بہبود پر بھی زور دیا ہے۔ یہ قرآنی اور اسلامی تعلیمات کا ہی اعجاز تھا کہ انصار و مہاجرین ﷺ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان بھائی سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ انصار ﷺ نے اپنے گھر بار تک مہاجرین ﷺ کو پیش کر کے وہ کام کیا جس کی کسی بھی دوسرے مذہب میں مثال نہیں ملتی۔

اسلام پیار و محبت کا درس دیتا ہے۔ باہمی اخوت اور رواداری اسلام کا حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر چھوٹے بڑے کے حقوق و فرائض کی وضاحت فرمادی گئی ہے۔ معاشرہ کی بنیاد باہمی میل جول اور برادرانہ تعلقات پر رکھی گئی ہے۔ معاشرہ افراد کے اجتماع سے وجود میں آتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی خاطر اپنے ارد گرد یعنی ہمسایوں کے حقوق و فرائض کی وضاحت نہایت احسن طریقہ سے کی گئی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمسایوں کے حقوق کی وضاحت فرمائی تو مجھے گمان ہونے لگا کہ ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار بنادیا جائے گا۔“

یہ بات بالکل واضح ہے کہ روزِ محشر دیگر معاملات کے علاوہ پڑوسی کے متعلق بھی باز پرس ضرور ہوگی۔ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی جہاں معاشرہ میں عزت اور سکھ چین کا باعث ہے، وہاں حضور نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ کی شفاعت اور اللہ



تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ بھی ہے۔

لیکن آج ہم جب اپنے معاشرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو افرادِ معاشرہ نفسا نفسی کی کیفیت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کائنات کا دائرہ محض اپنی ذات تک محدود کر لیا ہے اور ہمسائیگی کی اسلامی روح سے بالکل بے بہرہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ پڑوس میں کوئی ہمارا ہمسایہ نہایت عسرت و تنگدستی کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) حالانکہ حضور نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ کا فرمانِ عالی شان ہے: ”اپنے ہمسائے کا خاص خیال رکھو گھر میں اگر کوئی چیز لاؤ یا پکاؤ تو اُس میں سے کچھ اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو“۔

آج کے اس پُر آشوب دور میں محترم قبلہ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی دامت برکاتہم العالیہ نے اس صورتِ حالات کا بنظرِ غائر مشاہدہ کرتے ہوئے اس طرف خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے اور زیرِ نظر کتاب ہمسایوں کے حقوق میں نہایت تحقیق اور عرق ریزی سے قرآن و سنت اور احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق کی وضاحت فرماتے ہوئے اُن کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ ہم اہل اسلام کی دنیوی زندگی قرآن و سنت اور اُسوۂ حسنہ کے مطابق بسر ہو۔ معاشرہ میں اخوت و محبت اور رواداری کی فضا قائم ہو اور آخرت میں اجرِ عظیم کے مستحق قرار پائیں۔

اللہ ربّ العزت جل جلالہ محترم قبلہ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب (ایم۔ اے) دامت برکاتہم العالیہ کی اس عظیم کاوش کو شرفِ قبولیت بخشے اور قارئینِ کرام کو اس کتاب کے مطالعہ سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین  
ثم آمین۔

خیر اندیش

رشید احمد جنجوعہ یوسفی عفی عنہ

## حرفِ آغاز

اسلامی احکام میں جہاں اللہ ﷻ کی بندگی اور رسولِ کریم رُف و رجم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا بیان ہے، وہاں والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، مسافروں، خادموں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان ہے۔

آج ہم مسلمانوں کی اکثریت معاشرتی معاملات اور انسانی حقوق اور اُن کی ادائیگی کے بارے علمی اور عملی لحاظ سے بہت غافل اور لاپرواہ ہیں۔ اسلامی نظام حیات میں کسی کے اچھے انسان اور سچے مومن ہونے کی خوبی اور پہچان اُس کی عبادات کے ساتھ معاملات کی درستی سے بھی ہے۔ جو شخص عبادات کے مقابلے میں معاملات اور باہمی انسانی حقوق و فرائض میں لاپرواہ غافل اور غیر محتاط ہے وہ اچھا مومن شمار نہیں ہوتا۔

سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۷۷ میں اللہ ﷻ کا ارشادِ مبارک ہے۔ ”کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ (انسان) اللہ (ﷻ) اور قیامت پر اور فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء (کرام علیہم السلام) پر ایمان لائے (یعنی صرف قبلہ رو ہونا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دلِ اخلاص کے ساتھ ربِّ کعبہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ عقائد کی درستی کے بعد اعمال اور معاملات کی صحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے) ”اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، راہ گروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے میں (یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں) خرچ کرے اور نماز (پنجگانہ) قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، مصیبت اور سختی میں جہاد کے وقت صبر کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔“

انسان چونکہ کمزور پیدا ہوا ہے اس لئے عملی زندگی میں عبادات اور

معاملات میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس سلسلہ میں ربّ ذوالجلال والا کرام کا سورۃ النساء کی آیت نمبر ۳۶ میں ارشاد مبارک ہے۔ ”اللہ (ﷻ) کی بندگی کرو اور اُس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ (نہ جاندار کو نہ بے جان کو نہ اُس کی ربوبیت میں اور نہ اُس کی عبادت میں اور نہ ہی اُس کی ذات اور حقیقی صفات میں) اور ماں باپ سے بھلائی کرو (ادب و تعظیم کے ساتھ اُن کی خدمت میں مستعد رہو اُن پر مال خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو) اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، کروٹ کے ساتھی، راہ گیر اور اپنے غلام سے (بھلائی کرو) بیشک اللہ (ﷻ) اُس کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا اور بڑائی مارنے والا ہے۔ یعنی جو شخص والدین سے حسن سلوک نہ کرے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ذلیل و حقیر سمجھے وہ انسان مغرور اور متکبر ہے، ایسے شخص کو اللہ (ﷻ) ہرگز پسند نہیں فرماتا۔

محولہ بالا ارشاد مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم نے والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے بعد ہمسایوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں دُور و نزدیک کے ہمسایوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے حسن سلوک اور اُن کے حقوق کی ادائیگی کو اللہ (ﷻ) اور نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ نے خصوصی اہمیت سے بیان فرمایا ہے۔ ہمسایوں کے وہ حقوق کیا ہیں جن کی ادائیگی کو بیان فرمانے کے لئے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام گاہ بگاہ بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوتے تھے اور رسول کریم رُوف و رحیم ﷺ گمان فرمانے لگے کہ مبادا ہمسائے کو ترکہ میں وارث بنا دیا جائے گا؟ بندہ ناچیز منیر احمد یوسفی نے مستند کتب احادیث مبارکہ اور مشہور و معروف تفاسیر قرآنیہ سے ہمسایوں کے حقوق بیان کرنے کی سعی کی ہے۔ بارگاہ ربّ العالمین میں عاجزانہ اور منکسرانہ درخواست والتجا ہے کہ وہ اس سعی کو قبول عام عطا فرمائے تاکہ یہ کتاب بندہ کے لئے اور پڑھنے والوں کے لئے معاملات کی درستگی کا باعث بنے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ نگاہ محبت سے مطالعہ فرمائیں اور محبت سے بندہ ناچیز کی ادبی اور تحریری غلطیوں کی نشاندہی فرمائیں تاکہ بندہ اپنی اصلاح کر سکے۔ جزاک اللہ!

## أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا (النساء: ۳۶)

”اللہ (تبارک و تعالیٰ) کی بندگی کرو اور اُس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ (نہ جاندار کو نہ بے جان کو) اور ماں باپ سے بھلائی کرو (ادب و تعظیم کے ساتھ اُن کی خدمت میں مستعد رہو۔ اُن پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو) اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، پاس کے ہمسائے، دُور کے ہمسائے، کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے غلام سے (بھلائی کرو)۔ بے شک اللہ (تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم) اُس کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، بڑائی مارنے والا ہے۔“

### ہمسایہ کون ہے؟

عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ:

جَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو کسی کے مکان کے متصل رہتا ہے اور الْجَارِ الْجُنُبِ سے وہ پڑوسی مراد ہے جو کسی کے مکان سے کچھ فاصلہ پر رہتا ہے۔

حضرت علی بن ابوطالبؓ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ یعنی الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ۚ ”الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ سے مراد وہ شخص ہے جو پڑوسی بھی ہے اور تمہارا اُس کے ساتھ تعلق رشتہ داری بھی ہے۔“ اس طرح اس میں دو حقوق جمع ہو گئے۔ ایک حق

پڑوسی اور ایک حق رشتہ داری (قربابت داری) اور الْجَارِ الْجُنُبِ سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں۔ اس لئے اس کا حق پہلے سے مؤخر ہے۔

بعض مفسرین یعنی حضرت عکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت میمون بن مہران، حضرت ضحاک، حضرت زید بن اسلم، حضرت مقاتل بن حیان، حضرت قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو اسحاق، حضرت نوف الشامی رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ يَعْنِي الْجَارَ الْمُسْلِمَ وَالْجَارَ الْجُنُبَ يَعْنِي الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ۚ یعنی الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ سے مراد مسلم ہمسایہ ہے اور الْجَارِ الْجُنُبِ سے مراد یہودی اور عیسائی، غیر مسلم ہمسایہ ہے۔

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ قریب کا ہو یا دُور کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، مسلم ہو یا غیر مسلم، بہر حال اُس کا حق ہے بقدر استطاعت اُس کی امداد اعانت اور خبر گیری لازم ہے۔ البتہ جس کا حق علاوہ پڑوس کے دوسرا بھی ہے وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجہ میں مقدم ہے۔

”وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ“ اس کے لفظی معنی ہیں ہم پہلو ساتھی یا کروٹ کے ساتھی یعنی بیوی جو صحبت میں رہے یا جو رفیق سفر ہو۔ جو ریل گاڑی، بس، لاری، ہوائی جہاز یا بحری جہاز میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہو۔ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو کسی مجلس میں ہم نشین ہو، ساتھ بیٹھا ہو۔

شریعتِ اسلامیہ مطہرہ نے جس طرح دُور و نزدیک کے پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری کی تعلیم فرمائی ہے اسی طرح اُس شخص کا بھی حق صحبت مقرر فرمایا ہے جو تھوڑی دیر کیلئے بھی مجلس یا سفر میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہو جس میں مسلم اور غیر مسلم رشتہ دار اور غیر رشتہ دار برابر ہیں۔ اُن کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی کے کسی قول و فعل سے اُس کو ایذا نہ پہنچے۔ ایسی کوئی گفتگو نہ کی جائے جس سے اُس کی دل آزاری ہو اور ایسا کوئی کام نہ

کیا جائے جس سے اُس کو تکلیف ہو، مثلاً سگریٹ پی کر اُس کا دُھواں اُس کے منہ کی طرف نہ چھوڑا جائے۔ پان کھا کر پیک اُس کی طرف نہ پھینکی جائے۔ اس طرح نہ بیٹھا جائے جس سے اُس کی جگہ تنگ ہو جائے۔

ہر شخص اس پر غور کرے کہ مجھے صرف ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے، اس سے زائد جگہ گھیرنے کا حق نہیں، دوسرا یہ کہ اگر کوئی قریب بیٹھا ہے تو ریل گاڑی میں اُس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔

بعض مفسرین حضرات نے فرمایا ہے کہ صَاحِبِ بِالْجَنَبِ میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی کام اور کسی پیشہ میں آپ کا شریک ہے۔ صنعت کی مزدوری میں، دفتر کی ملازمت میں، سفر میں یا حضر میں۔

اگر ہم لوگ قرآنِ کریم کی ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔

### ہمسایوں کے حقوق:

انسان کا اپنے والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ہمسایوں سے بھی ایک مستقل تعلق اور واسطہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشگواہی و ناخوشگواہی کا زندگی کے چین و سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔

رسول کریم رُؤف و رحیم رحمۃ اللعالمین ﷺ نے اپنی نورانی تعلیمات و ہدایات اور نورانی زندگی مبارک کے مقدس عملی نمونہ مبارکہ میں ہمسائیگی کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام و اکرام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو جزوِ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم رُؤف و رحیم ﷺ کی محبت کا معیار اور جنت میں داخلہ کی شرط قرار دیا ہے۔

اس سلسلہ میں نبی کریم رُؤف و رحیم ﷺ کے نورانی، ایمانی، ایتقانی اور عرفانی ارشاداتِ مقدسہ کو جاننے اور ماننے اور اُن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

## کہاں تک کے ہمسایوں کا لحاظ رکھا جائے:

حضرت ولید بن دینار علیہ الرحمہ سے روایت ہے وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: اِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ اَرْبَعِينَ دَارًا اَمَامَهُ وَاَرْبَعِينَ خَلْفَهُ وَاَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ وَاَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ ۳ اُن سے ہمسائے کے بارے میں سوال کیا گیا (کہ ہمسائیگی کہاں تک ہے؟) تو فرمایا: چالیس گھر اپنے گھر کے آگے چالیس گھر اپنے گھر کے پیچھے چالیس گھر دائیں اور چالیس گھر بائیں۔

حضرت علقمہ بن بجالہ بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اُنہوں نے فرمایا: لَا يَبْدُ اَبْجَارِهِ اِلَّا قُصَى قَبْلَ الْاَدْنَى وَلَكِنْ يَبْدُ بِالْاَدْنَى قَبْلَ الْاَقْصَى ۴ ”کسی اچھے سلوک یا احسان کا آغاز دُور کے ہمسایہ سے نہیں کرنا چاہئے یہ کہ قریب کا ہمسایہ چھوڑ دیا جائے بلکہ دُور کے ہمسائے کے مقابلے میں قریب کے ہمسائے سے (حسن سلوک) شروع کرنا چاہئے۔“

## پڑوسیوں کے حقوق چالیس گھروں تک:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي نَزَلْتُ فِي مَحَلَّةٍ بَيْنِي فُلَانٌ وَاِنْ اَشَدَّهُمْ اِلَيَّ اَذَى اَقْرَبُهُمْ لِي جَوَارًا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا رضی اللہ عنہ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ، فَيَقُومُونَ عَلَى بَابِهِ فَيَصِيحُونَ: اَلَا اِنَّ اَرْبَعِينَ دَارًا جَارًا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ ۵ ”ایک شخص نبی کریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ

۳۔ الادب المفرد ص ۱۹ (بیروت) ۳۸۴ (سانگلہ ہل)، درمنثور جلد ۲ ص ۵۲۹۔ ۴۔ الادب المفرد ص ۱۹ (بیروت)۔ ۵۔ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۳، فتح القدیر جلد ۱ ص ۵۸۶، تفسیر قرطبی جلد ۳ جز ۵ ص ۱۲۱، مواہب الرحمن جلد ۲ ص ۱۶۳۳، ۵۳۔



اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) میں فلاں محلے میں رہتا ہوں اور بے شک وہاں کے لوگ مجھے تکلیف دینے کے اعتبار سے سخت ہیں اور وہ قربت کے اعتبار سے میرے پڑوسی ہیں۔ پس آپ ﷺ نے (حضرت) ابوبکر (حضرت) عمر اور (حضرت) علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا وہ تمام حضرات مسجد میں آئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان تمام حضرات نے لوگوں کو پکارا اور فرمایا: خبر داؤ بے شک چالیس گھروں تک پڑوسی ہوتا ہے اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اُس کے شر سے خوف میں ہو۔“

(البوائق) جمع بائقہ کی ہے معنی شر + مصائب ہیں۔

### ہمسائے کا اکرام:

حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جب رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی تو میرے کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا، آپ ﷺ فرماتے تھے:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ جَائِزَتُهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالصَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ ۚ ”جس کو اللہ (تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم) اور قیامت کے دن پر ایمان ہو وہ اپنے ہمسایہ کا اکرام کرے اور جو اللہ (تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم) اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ دستور کے مطابق مہمان کی خاطر مدارت کرے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم)“

۱۔ بخاری جلد ۲ ص ۸۸۹ (باختلاف الفاظ) ، مسلم جلد ۲ ص ۸۰، شرح السنۃ جلد ۲ ص ۱۰۴، دارمی جلد ۲ ص ۹۸، مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۸۱ حدیث نمبر ۱۶۴، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۹ ص ۱۹۷، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۷۸، المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۲ ص ۱۸۴، مسند احمد جلد ۴ ص ۳۱، قرطبی جلد ۳ جز ۵ حدیث نمبر ۶۴۔



وسلم) دستور کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دن اور رات (دو وقت کا کھانا کھائے) اور (نفلی طور پر) مہمانی تین دن تک بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد مہمان نہیں بلکہ خیرات دینا ہے اور جس کو اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور قیامت کے دن پر ایمان ہو وہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔“

ہمسائے کے بارے میں وصیت:

حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ (لِيَسْكُتْ) ے

”جو اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہئے کہ ہمسائے پر احسان کرے اور جو اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے اور جو اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہئے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔“

ہمسائے کو ایذا نہ دو:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ

ے الادب المفروض ۱۸ (چھاپہ بیروت) ص ۳۶ (چھاپہ سانگلہ ہل) الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۲، داری جلد ۲ ص ۹۸، مسند احمد جلد ۱ ص ۲۰، شرح السنۃ جلد ۶ ص ۱۰۴، ابن ماجہ حدیث نمبر ۳۶۷۵، ترمذی حدیث نمبر ۱۹۶۷، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۵ ص ۶۲، المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۲ ص ۱۹۲، مستدرک حاکم جلد ۴ ص ۱۸۲ (مختصر) جمع الزوائد جلد ۱ ص ۲۷۸، ابوداؤد حدیث نمبر ۳۷۷۷۔

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ ۝ ”جو شخص ایمان لایا اللہ (تبارک وتعالیٰ) پر اور آخرت کے دن پر اُسے چاہئے کہ مہمان کی خوب خاطر مدارت کرے اور جو شخص ایمان لایا اللہ (تبارک وتعالیٰ) جلّ مجدہ (الکریم) اور آخرت کے دن پر اپنے ہمسائے کو ایذا نہ دے اور جو شخص ایمان لایا اللہ (تبارک وتعالیٰ) جلّ مجدہ (الکریم) اور قیامت کے دن پر اُسے چاہئے کہ جب بات کرے تو اچھی کرے اگر اچھی بات نہ کر سکے تو چپ رہے۔ (فضول اور لغو باتیں نہ کرے)۔

واللہ وہ مومن نہیں:

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقُهُ. قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: شَرُّهُ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، اللہ (تبارک وتعالیٰ) جلّ مجدہ (الکریم) کی قسم! وہ مومن نہیں، اللہ (تبارک وتعالیٰ) کی قسم! وہ مومن نہیں، اللہ (تبارک وتعالیٰ) جلّ مجدہ (الکریم) کی قسم! وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) یہ جو گھائے اور نقصان میں ہے، وہ کون شخص ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص جس کا ہمسایہ اُس کے بوائقہ سے محفوظ نہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ بوائقہ سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُس کے شر سے۔“

اللہ عزوجل کی قسم مومن نہیں ہوگا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ نے فرمایا: وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ ۝ ابوداؤد جلد ۲ ص ۳۵۴، الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۲، دارمی جلد ۲ ص ۹۸، مسند ابوعوانہ جلد ۱ ص ۳۴، مشکوٰۃ حدیث نمبر ۴۲۴۴، مسند احمد جلد ۳ ص ۷۶۔ ۹ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۲، قرطبی جلد ۳ ص ۵۵، جز ۱۲۰۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ۝۱۰

”اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کی قسم! مومن نہیں ہوتا، اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کی قسم! مومن نہیں ہوتا، اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کی قسم! مومن نہیں ہوتا، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) کون؟ فرمایا: وہ جس کا پڑوسی اُس کی شرارتوں سے اُمن میں نہ ہو۔“

لَا يُؤْمِنُ میں کمالِ ایمان کی نفی ہے یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہر مومن کو اپنے شر سے بچانا ضروری ہے مگر پڑوسی کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے کہ اس سے ہر وقت واسطہ رہتا ہے، وہ اچھے سلوک اور اخلاق کا حق دار ہے۔

احادیثِ مبارکہ کے الفاظ میں غور کر کے ہر صاحبِ ایمان اندازہ کر سکتا ہے کہ رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ کے مذکورہ بالا ارشادات مبارکہ کیسے جلال سے معمور ہیں؟ اور جس وقت آپ سرکار ﷺ نے ارشادِ عالی شان فرمایا ہوگا، آپ ﷺ کے خطابِ مبارک اور ماحول کی کیفیت کیسی ہوگی؟

بہر حال مذکورہ پُر جلال ارشاداتِ عظیمہ کا مُدعا اور پیغام یہی ہے کہ ایمان والوں کے لئے لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اُن کا برتاؤ اور رویہ ایسا شریفانہ رہے کہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن اور بے خوف رہیں۔ اُن کے دلوں میں کسی قسم کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کا یہ حال نہیں ہے کہ اُس کے پڑوسی اُس سے مطمئن نہیں تو رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ کے ارشاداتِ مبارکہ کے مطابق اُسے ایمانِ کامل کا مقام نصیب نہیں ہے۔

شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ملیں گے جو ایسی احادیثِ مبارکہ کو پڑھ اور سن کر زندگی کے اس اہم شعبہ کو درست کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہوں۔ بلاشبہ ایسی

۱۰۔ مرآۃ جلد ۶ ص ۵۵۵، مشکوٰۃ ص ۴۲۲، الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۲، مسند احمد جلد ۲ ص ۲۸۸، جلد ۴ ص ۳۱، جلد ۶ ص ۳۸۵، مستدرک حاکم جلد ۱ حدیث ۱۰ ص ۵۳، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۹، درمنثور جلد ۲ ص ۱۵۸، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۸۸۵۔

احادیث مبارکہ پڑھنے اور سننے کے بعد بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ کو بہتر اور خوشگوار بنانے کی فکر نہ کرنا بلاشبہ بڑی شقاوت اور بدبختی کی نشانی ہے۔  
**مومنِ کامل کون ہے؟**

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بِوَأَيْقَهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بِوَأَيْقَهُ؟ قَالَ: غُشْمُهُ وَظُلْمُهُ وَلَا يَكْسِبُ مَالًا مِّنْ حَرَامٍ، فَيَنْفِقَ مِنْهُ فَيَبَارِكَ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيثَ ۖ

”بے شک اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) نے تمہارے درمیان اخلاق تقسیم فرمادیئے جیسے کہ تمہارے درمیان تمہاری روزی بانٹ دی اور اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) تو دنیا اُسے بھی دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے اور اُسے بھی جسے ناپسند فرماتا ہے، مگر دین صرف اُسے دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ تو جسے اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) دین عطا فرمادے اُس سے محبت فرماتا ہے۔ اُس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہوتا حتیٰ کہ اُس کا دل اور زبان مسلمان رہے اور مومن نہیں ہوتا حتیٰ کہ اُس کا پڑوسی

۱۔ مشکوٰۃ ص ۲۲۵، مرآۃ جلد ۶ ص ۵۷۹، الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۵۴۹، جلد ۳ ص ۳۵۴، مسند احمد جلد ۱ ص ۳۸۱، مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۲۲۷، ۹۰، درمنثور جلد ۲ ص ۱۵۹، حلیۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۱۶۶۔

اُس کے شر سے اُمن میں ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) بِوَائِقَہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ اُس کی جہالت اور اُس کا ظلم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حرام مال کمائے اور اُس کو خرچ کرے تو اُس میں برکت ہو اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کرے اور اُس کو قبول کیا جائے اور وہ حرام مال جو وہ چھوڑ جاتا ہے وہ اُس کے لئے دوزخ کا زادِ راہ بنتا ہے۔ بے شک اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) بُرائی سے بُرائی کو ختم نہیں کرتا بلکہ بُرائی کو اچھائی سے ختم کرتا ہے، بے شک خبیث سے خبیث کو ختم نہیں کرتا۔

اس حدیث شریف سے واضح ہو رہا ہے کہ بعض کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں اور بعض کے خراب۔ ایسے ہی اعمال اور احوال کا بھی حال ہے۔ بعض مومن امیر، بعض کافر امیر، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر اور ہمارے نبی کریم رُوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی فرمانے والے ہیں، جبکہ فرعون اور ہامان، قارون اور شداد بڑے مالدار ہوئے ہیں لیکن کافر ہی رہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ دولت تو دوست، دشمن اور کافر سبھی کو دیتا ہے، اس لئے یہ محبوبیت کی علامت نہیں مگر دین اُسے دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ دین اللہ تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دینداری کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم اور نبی کریم رُوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ جب اللہ تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم اور نبی کریم رُوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جاتا ہے تو عبادات اور معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ انہی معاملات اور عبادات میں یہ بات خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جب ہمسایہ راضی ہوگا تو دوسرے لوگ بدرجہ اولیٰ راضی ہوں گے۔

رسول کریم رُوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ عظیم کی روشنی میں اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنا چاہئے: **الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ**

وَلَا يُؤْلَفُ ۱۲ ”مومن اُلفت والا ہوتا ہے اور اُس میں خیر نہیں جو نہ اُلفت کرے اور نہ اُس سے اُلفت کی جائے۔“ ایسا شخص نورِ ایمان سے محروم ہے جو ایمان والوں سے نفرت کرے اور ایمان والے اُس سے نفرت کریں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اُلفت رکھنا کچھ اور ہے اور لوگوں کے شر سے بچنے کے لئے علیحدہ رہنا کچھ اور ہے۔

### ایک اور روایتِ مبارکہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بِوَأَيْقَةِ (أَطْوَالِ مِنْهُ وَلَفْظُهُ:) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَأْمَنْ جَارُهُ بِوَأَيْقَةِ يُبَيِّتُ حِينَ يُبَيِّتُ وَهُوَ آمِنٌ مِنْ شَرِّهِ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنَ الَّذِي نَفْسُهُ مِنْهُ فِي غِنَاءٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ ۱۳ ”میں نے نبی کریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اُس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں (حضرت ابو یعلیٰ علیہ الرحمہ نے حضرت ابن اسحاق علیہ الرحمہ سے یہ روایت بیان کی ہے اور حضرت اصہبانی علیہ الرحمہ نے طویل حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے) یعنی نبی کریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک کوئی آدمی اُس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اُس کا پڑوسی اُس کے شر سے محفوظ نہ ہو اور وہ رات اس طرح گزارے کہ اپنے پڑوسی کے شر سے اُمن میں ہو۔ پس بے شک مومن وہ ہے جس کا نفس لوگوں کے لئے باعثِ خیر ہو اور لوگ اُس سے راحت میں ہوں۔“

### ایک اور روایتِ مبارکہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ۱۲ مشکوٰۃ ص ۴۲۵، مرآۃ جلد ۶ ص ۵۸۰، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱ ص ۲۳۷-۲۳۸ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۳، کنز العمال حدیث نمبر ۸۵، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۹، مستدرک حاکم جلد ۳ حدیث نمبر ۱۶۵، مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۳ ص ۳۵۹۔

اللہ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لَا خِيَةَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ۱۴ ”رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لئے یا (آپ ﷺ نے) فرمایا: اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

### ایک انسان کی سعادت:

حضرت نافع بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ۔ ۱۵ ”نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: کہ یہ بات انسان کی سعادت سے ہے کہ پڑوسی صالح ہو اور سواری اچھی ہو اور مکان بھی کشادہ ہو۔“

### ایک اور روایت مبارکہ:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْجَارُ السُّوُّ وَالْمَرْأَةُ السُّوُّ وَالْمَرْكَبُ السُّوُّ وَالْمَسْكَنُ الضَّيْقُ ۱۶ ”نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں (۱) نیک بیوی (۲) کشادہ گھر (۳) نیک پڑوسی اور (۴) اچھی سواری اور چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں۔ (۱) بُرا پڑوسی (۲) بُری عورت (۳) بُری سواری اور (۴) تنگ گھر۔“

۱۴ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۳۔ ۱۵ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۶۳، الادب المفروض ۲۰ (بیروت)۔ ۱۶ کنز العمال حدیث نمبر ۵۳۷۴۰، ابن حبان حدیث نمبر ۱۲۳۲، الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۶۳۔



ہمسائے کو تحفہ:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: اُنہوں نے ایک بکری ذبح کی تو (اپنے گھر والوں سے یا غلاموں سے) فرمایا: اَهْدَيْتُمْ لِحَارِي الْيَهُودِيِّ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُورِثُهُ ۚ ”کیاتم نے میرے یہودی ہمسائے کے پاس گوشت کا ہدیہ بھیجا ہے کیونکہ میں نے رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) ہمیشہ میرے پاس آکر ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا کہتے تھے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ وہ ہمسائے کو بھی وارث بنا دیں گے۔“

اُفسوس ہے کہ سرکارِ کائنات ﷺ کے ظاہری زمانہ حیات سے جتنی دُوری ہوتی گئی ہے ہم لوگ آپ ﷺ کی تعلیمات اور ہدایت سے اُسی قدر دُور ہوتے چلے گئے ہیں۔ رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید اُمت کو فرمائی ہے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آج بھی اُمت کا اُس پر عمل جاری رہتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ کی تعلیمات و ہدایات کی قدر و اہمیت سمجھیں اور انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔

پڑوسی کو وارث بنانے کا گمان:

اُم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: مَا زَالَ جَبْرِيلُ ﷺ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ



اِنَّهُ سَيُورَثُهُ ۱۸ ”حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مجھے (اُمّت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کا) حکم پہنچاتے رہے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔“ یعنی مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم مسلمانوں کو پڑوسی کی مالی میراث میں شریک فرما دے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَيَّ نَاقَتِهِ الْجُدْعَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: اَوْصِيكُمْ بِالْجَارِ حَتَّى اَكْثَرَ فَقُلْتُ: اِنَّهُ يُورَثُهُ ۱۹ ”میں نے نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی المجدعاء پر فرماتے ہوئے سنا: میں تم کو پڑوسی سے اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہوں، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے متعدد مرتبہ فرمایا، میں کہتا ہوں (مجھے ایسے لگا جیسے) بے شک آپ ﷺ نے اُس کو وارث بنا دیا۔“

مطلب یہ کہ پڑوسی کے حق اور اُس کے ساتھ اکرام و رعایت کا رویہ رکھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل ایسے تاکیدِ احکام لاتے رہے کہ نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ نے خیال فرمایا: ”شاید اس کو وارث بھی بنا دیا جائے گا۔“ یعنی یہ حکم آجائے گا کہ کسی کے انتقال کے بعد جس طرح مرنے والے کے ماں باپ، بیوی بچے اور

۱۸ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۶۰، شرح السنۃ جلد ۶ ص ۳۷۰، دلائل النبوة جلد ۷ ص ۷۷  
حلیۃ الاولیاء جلد ۳ ص ۳۰۷، ۳۰۶، مسلم جلد ۲ ص ۳۲۹، ترمذی حدیث نمبر ۱۹۳۲، قرطبی جلد ۳ ص ۵۵  
جز ۵ ص ۱۲۰، مسند احمد جلد ۲ ص ۷۵، ۷۶، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۶ ص ۲۷۵، جلد ۷ ص ۱۱  
جلد ۸ ص ۱۱، تفسیر مظہری جلد ۳ ص ۱۰۴، مشکوٰۃ ص ۵۲۲، ابوداؤد جلد ۲ ص ۳۵۴، مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۷ ص ۳۵۷، درمنثور جلد ۲ ص ۵۲۹، مواہب الرحمن جلد ۲ ص ۵۳، المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۸ ص ۱۲۲، جلد ۱۲ ص ۳۶۰، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۵، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر ۳۵، ۱۹۷، قرطبی جلد ۳ ص ۵۵ حدیث نمبر ۱۸۴، الادب المفرد ص ۱۸ (چھاپہ بیروت) ص ۳۶ (چھاپہ سانگلہ بل)۔ ۱۹ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۶۲، المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۸ ص ۱۱۱، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۵، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۸۸۰۔

دوسرے قرابت دار اُس کے ترکہ کے وارث ہوتے ہیں اُسی طرح پڑوسی بھی وارث ہوگا۔ اُس کا بھی ترکہ میں حصہ ہوگا۔ یہ ارشاد محض واقعہ کے طور پر یہاں بیان نہیں ہو رہا بلکہ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کے اظہار کے لئے ایک نہایت موثر اور بلیغ ترین عنوان ہے۔

ہمسائے پر عنایتِ ربّانی:

انصار رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحب سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا بِهِ قَائِمٌ وَإِذَا رَجُلٌ مُّقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ، أَنَّ لَهُ حَاجَةً، فَجَلَسْتُ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْتِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَقَدْ قَامَ بِكَ هَذَا الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْتِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَ: أَتَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ لَرَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ ۚ ۲۰ میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ نبی کریم رؤف ورحیم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ (بے کس پناہ) میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلا، اُس وقت آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کھڑے تھے اور ایک آدمی آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے گمان کیا کہ شاید اُس کو کوئی حاجت ہے، میں بیٹھ گیا۔ اللہ (وَعَلَيْهِ السَّلَام) کی قسم! رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اُس کے لئے طویل قیام فرمایا۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم) تحقیق آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اُس شخص کے لئے قیام فرمایا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اُس کے لئے طویل قیام فرمایا: آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض

کیا، نہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ (حضرت) جبرائیل علیہ السلام تھے، مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں (اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے) تاکید کرتے رہتے ہیں، یہاں تک میں نے خیال کیا کہ (اللہ تبارک و تعالیٰ) اُسے وارث ہی بنا دے گا اور اگر وہ (یعنی تیرا پڑوسی) تجھے سلام کہے تو اُس کے جواب میں سلام کہہ۔“

غریب پڑوسی کو کپڑے نہ دینے والا امیر پڑوسی:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْسُنِي فَقَالَ: أَمَا لَكَ جَارٌ لَهُ فَضْلٌ ثَوْبَيْنِ؟ قَالَ: بَلَى غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ: فَلَا يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي الْجَنَّةِ ۚ<sup>۲۱</sup> ایک شخص ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے کپڑے پہنا دیں۔ آپ ﷺ نے اُس سے چہرہ انور پھیر لیا۔ اُس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے کپڑے پہنا دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تیرا کوئی پڑوسی نہیں جس کے پاس دو کپڑے زائد ہوں؟ اُس نے عرض کیا، جی ہاں! میرے پڑوسی کے پاس ایک سے زیادہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پس اللہ (تبارک و تعالیٰ) جَلَّ مَجْدُہُ الْکَرِیمِ) تجھ کو اور اُسے جنت میں جمع نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ وہ تیری غربت اور ننگے پن کا احساس نہیں کرتا، تجھے پہننے کے لئے کپڑے نہیں دیتا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تین چیزیں:

حضرت مطرف ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: كَانَ يُلْغَنِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ وَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَهُ فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ كَانَ يُلْغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ وَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَكَ قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ قَدْ لَقِيْتَنِي فَهَاتِ، قُلْتُ: حَدِيثٌ، بَلْغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

حَدَّثَكَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ ثَلَاثَةً، وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً قَالَ: فَمَا أَخَالِنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَنْ هُوَ لِأَيِّ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ وَأَنْتُمْ تَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) قُلْتُ: وَمَنْ؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارٌ سُوءُ يُؤْذِيهِ، فَيَصْبِرُ عَلَى آذَاهُ حَتَّى يَكْفِيَهُ اللَّهُ أَيَّاهُ بِحَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ ۚ ۲۲ ”مجھے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے حدیث (شریف) پہنچی اور مجھے اُن سے ملاقات کا بھی شوق تھا پس میں نے اُن سے ملاقات کی۔ میں نے کہا: اے ابوذر (رضی اللہ تعالیٰ عنک) مجھے آپ سے حدیث (شریف) پہنچی ہے اور میں آپ سے ملاقات کا مشتاق بھی تھا، کہا اللہ (عجل) کے لئے تیرا باپ تیری ملاقات مجھ سے کرا دے گا۔ وہ حدیث (شریف) جو مجھے پہنچی ہے بے شک رسول (کریم رؤف ورحیم) ﷺ نے تجھ سے حدیث (شریف) بیان کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک اللہ (عجل) تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند فرمایا: میرے لئے درست نہیں کہ نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ پر جھوٹ بیان کروں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جنہیں اللہ (تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم) پسند کرتا ہے؟ اُنہوں نے کہا، وہ شخص جو اللہ (تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم) کے راستے میں صابر اور ثواب حاصل کرنے کے لئے لڑا۔ پس وہ لڑا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا اور تم اُس کے بارے میں اپنے پاس موجود کتاب میں پاتے ہو پھر (آیت مبارکہ کی) تلاوت کی ”بے شک اللہ (تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم) پسند فرماتا ہے اُن لوگوں کو جو اللہ (تبارک و تعالیٰ) کی راہ میں لڑتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں۔“ میں نے

عرض کیا اور کون ہے؟ فرمایا: وہ شخص جس کا پڑوسی بُرا ہو، وہ (پڑوسی) اُس کو تکلیف دیتا ہو۔ (لیکن جس کو تکلیف دی جا رہی ہے) وہ شخص اُس کی تکلیف پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اُس شخص کی زندگی کی حفاظت کرے یا اُسے موت آجائے۔

### پڑوسی کا پڑوس اچھا نبھانے والے کی شان:

حضرت عبدالرحمان بن البقراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دن نبی (کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم) نے وضو شریف فرمایا: تو رسول (کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحابہ (کرام رضی اللہ عنہم) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو شریف کا پانی اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ (کیونکہ یہ مقدس پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہوا تھا) تو نبی (کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُن سے فرمایا: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ هَذَا؟ قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ”تمہیں ایسا کرنے پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ تو صحابہ (کرام رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا: اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور رسول (کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت۔“ تو نبی رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی اس بات کی تردید نہ فرمائی۔ (یعنی اُن کو اس عمل سے منع نہ فرمایا۔) بلکہ اُس کے ساتھ یہ ارشادِ عالی شان فرمایا:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيَوَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تَمَنَّى وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ ۲۳ (۱) جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور اُس کے رسول (کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرے پھر اُس سے اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور رسول (کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم) محبت کریں، تو وہ جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ (۲) جب اُمین بنایا جائے تو امانت ادا کرے۔ اور (۳) اپنے پڑوسی کا پڑوس اچھا نبھائے۔“ چونکہ یہ تین کام معاملات

کی درستگی کی جڑ ہیں۔ اس لئے اس سے اپنی عبادات کو درست کرنا آسان ہوگا۔ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ انسان عبادات میں بھی کامل ہونا چاہئے اور معاملات میں بھی۔  
تین تکلیف دہ چیزیں:

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْفَوَاقِرِ: إِمَامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرُوا وَإِنِ أَسَاءَتْ لَمْ يَغْفِرُوا وَجَارٌ سُوءٌ إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَدَاعَهُ وَامْرَأَةٌ إِنْ حَضَرَتْ آذَنَكَ وَإِنْ غَبَتْ عَنْهَا خَانَتْكَ ۲۴

”نبی رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں سخت مصیبت اور تکلیف کا باعث ہیں۔ (۱) امام کا شکریہ ادا نہ کرنا یعنی جب تو اُس سے احسان کرے تو وہ شکر ادا نہ کرے اور اگر تو اُس سے بُرائی کرے یعنی اچھائی نہ کرے تو وہ معاف نہ کرے (۲) بُرا پڑوسی کہ اگر تیری اچھائی دیکھے تو دفن کر دے (یعنی چھپائے) اور اگر بُرائی دیکھے تو شہرت دے۔ اور (۳) نافرمان عورت اگر تو حاضر ہو تو تکلیف دے اور اگر تو اُس سے غائب ہو تو تیری خیانت کرے۔“

پڑوسی اور ایمان:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَمَّنَ بِي مَنْ بَاتَ شُبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ۲۵ ”نبی کریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُس شخص کا مجھ پر ایمان نہیں جس نے رات پیٹ بھر کر گزاری اور اُس کا پڑوسی اُس کے پہلو میں بھوکا رہا اور وہ جانتا تھا۔“ دوسری روایت میں اس طرح ہے۔

پڑوسی کے ایمان کی پہچان:

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں،

۲۴ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۸، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۸۔ ۲۵ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۸، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۸، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۹۰۶۔

میں نے رسول کریم روف ورحیم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ ۲۶ ”مومن وہ نہیں جو خود خوب سیر ہو کر کھائے اور اُس کے برابر میں اُس کا پڑوسی بھوکا ہو۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم روف ورحیم ﷺ نے فرمایا: لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ ذُوْنَ جَارِهِ ۲۷ ”پڑوسی کو نہ چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی آسودگی کے بغیر خود شکم سیر ہو جائے۔“ اگر کسی ایمان والے کو اپنے پڑوسی کے بھوکے ہونے کی خبر نہیں تو ایسا شخص لا پرواہ ہے۔ اگر پڑوسی کے بھوکے اور محتاج ہونے کی خبر ہے تو ایسا شخص بے مروت ہے۔ ایک بندہ مومن کو چاہئے کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں، پڑوسیوں اور محلہ داروں کے حالات سے باخبر رہے۔ اگر کسی کی حاجت مندی کا پتا ہے تو اُس کی حاجت روائی کرے۔ مگر افسوس! آج ہم مسلمانوں کے طرزِ عمل اور رسول کریم روف ورحیم ﷺ کے ان ارشاداتِ مقدسہ اور نورانی تعلیمات میں اتنا بُعد اور فاصلہ ہو گیا ہے کہ کسی نا واقف کو اس بات کا یقین کرنا مشکل ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیسی پیاری ہیں۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ان تمام احادیثِ مبارکہ میں مسلم اور غیر مسلم پڑوسی کی کوئی تخصیص نہیں بیان کی گئی ہے۔

بہترین ساتھی اور بہترین پڑوسی:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم روف ورحیم ﷺ نے فرمایا: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ هُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ۲۸ ”اللہ

۲۶ مشکوٰۃ ص ۴۲۴، مرآۃ جلد ۶ ص ۶۷۶، الادب المفرد ص ۲۰ (بیروت) ۳۹ (سانگلہ ہل)، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۸، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۹۰۲-۲۷ ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۲۵، مسند احمد جلد ۱ ص ۵۵، حلیۃ الاولیاء جلد ۹ ص ۲۷، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۷، کنز العمال حدیث نمبر ۸۲۹۴۲، مستدرک حاکم جلد ۴ ص ۱۶۷-۲۸ مرآۃ جلد ۶ ص ۷۳، الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۶۰، مسند احمد جلد ۲ ص ۱۶۸، دارمی جلد ۲ ص ۲۱۵، مستدرک حاکم جلد ۱ حدیث نمبر ۴۴۳، جلد ۲ ص ۱۰۱، جلد ۴ ص ۱۶۴، صحیح ابن خزمیہ حدیث نمبر ۲۵۳۹، مشکوٰۃ ص ۴۲۴، الادب المفرد ص ۲۰ (بیروت) ص ۴۰ (سانگلہ ہل)، ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۲۵۔



(تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے دوستوں، ہمراہیوں کے لئے بہترین ہیں اور اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لئے بہترین ہیں۔

ساتھی سے مراد عام ساتھی ہیں۔ مدرسہ، سکول، مسجد، نماز، دفتر، سفر اور گھر کے ساتھی وغیرہ۔ مسلمان ہر ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اُن کی خیر خواہی کرنے والا اچھا برتاؤ کرنے والا اور اچھی راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔

عبادات کی درستگی کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی بہت اہم ہے۔ دوست سے ہر وقت معاملہ رہتا ہے اس لئے اُس سے اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔ اُس کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا جائے۔

ہمسائے کو اذیت پہنچانے والا کون؟

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي، فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ حَارَبَ جَارَهُ، فَقَدْ حَارَبَنِي، وَمَنْ حَارَبَنِي فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ۲۹ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی پس تحقیق اُس نے مجھے تکلیف دی اور جس شخص نے مجھے تکلیف دی پس تحقیق اُس نے اللہ (تبارک وتعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کو تکلیف دی اور جس شخص نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا پس تحقیق اُس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اور جس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اُس نے اللہ (وجلّ) سے جھگڑا کیا۔“

جنت میں داخلہ بند:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ



حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ۳۰

”بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کسی شخص کا ایمان اُس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اُس کا دل درست نہ ہو جائے اور کسی کا دل اُس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اُس کی زبان درست نہ ہو جائے اور کوئی شخص اُس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اُس کا پڑوسی اُس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔“

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَلْمُؤْمِنُ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ۳۱

”اور ان (حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ) ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں: نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ فرماتے ہیں: (۱) مومن وہ شخص ہے جس سے لوگ امن میں ہوں اور (۲) مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور (۳) مہاجر وہ شخص ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہو۔ (۴) قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی شخص اُس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اُس کا پڑوسی اُس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔“

پڑوسی کو تنگ کرنے والے کیلئے جنت میں داخلہ بند:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ۳۲ ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اُس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔“

۳۰ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۳، مسند احمد جلد ۳ ص ۱۹۸، مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۵۳، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۹۲۵۔ ۳۱ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۴۔ ۳۲ مشکوٰۃ ص ۴۲۲، مرآۃ جلد ۶ ص ۵۵۶، درمنثور جلد ۲ ص ۵۲۹، ابن حبان حدیث نمبر ۳۶، مسند احمد جلد ۲ ص ۳۷۳، متدرک حاکم جلد ۱ ص ۵۴، الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۲، شرح السنۃ جلد ۶ ص ۴۷۱، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۹۰۸، مسند ابوعوانہ جلد ۱ ص ۳۰۔

یعنی صالحین اور نجات پانے والوں کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ سزا پا کر بہت عرصہ کے بعد یا جلد وہاں پہنچ جائے۔ افسوس کہ یہ سبق آج ہم میں سے اکثریت بھلا چکی ہے۔ اب تو ہمارے تیر کا پہلا شکار ہمارا پڑوسی ہوتا ہے۔

پڑوسی کا حق:

رَوَى عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَا لَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بِوَائِقِهِ أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ اعْنَتَهُ، وَإِذَا اسْتَقَرَّ ضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِذَا امْرَأٌ عُدَّتَهُ وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبُيُوتِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بَادِنَهُ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزِيَّتُهُ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ وَلَا تُؤْذِهِ بِقِتَارِ رِيحٍ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِلْهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلِذَلِكَ لِيَغِيْظَ بِهَا وَلَدُهُ ۳۳

”حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے گھر والوں اور اپنے مال (کے نقصان) کے خوف سے پڑوسی پر دروازہ بند کرے، وہ پڑوسی جس کے خوف سے دروازہ بند کیا گیا ہے۔ وہ مومن نہیں، جس کا پڑوسی اُس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ (پھر فرمایا) حق یہ ہے کہ: (۱) جب وہ تم سے مدد مانگے تو اُس کی مدد کرو اور (۲) جب تم سے قرض مانگے تو قرض دو اور (۳) جب محتاج ہو تو اُس کی مدد کرو اور (۴) جب بیمار ہو تو اُس کی عیادت کرو (۵) اور جب اُسے کوئی خیر پہنچے تو

مبارک باد دو اور (۶) مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو اور (۷) جب مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ اور (۸) بغیر اُس کی اجازت کے اپنی عمارت اونچی نہ کرو کہ اُس کی ہوا روک دو اور (۹) اپنی ہنڈیا سے اُس کو تکلیف نہ دو مگر اُس میں سے اُسے بھی کچھ دو اور (۱۰) جب پھل خریدو تو اُس کو اُس میں سے ہدیہ کرو اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر گھر میں لاؤ اور (نہ ہی) تمہارے بچے اُسے لے کر باہر نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔

کھانے پینے میں پڑوسی کو شامل کرنا اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پڑوسی کے بچوں پر اپنا بلند معیار زندگی کبھی ظاہر نہ ہونے دینا، کمالِ احتیاط سے ہر حکمت کی تلقین ہے کیونکہ بلند معیار بچوں کے خور و نوش کو دیکھ کر کم معیار بچے بھی اُس قسم کی اشیاء کھانے کی خواہش کریں گے اور اپنے والدین کو مہیا کرنے کے لئے کہیں گے اور ہو سکتا ہے اس سے والدین میں حرام کے ذریعہ اُن کے حاصل کرنے کی غیر اسلامی اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والی تحریک پیدا ہو۔

آپ ﷺ کے ارشادات مقدسہ کا مقصد انتہائی مہذب معاشرہ کی تشکیل ہے۔

رَوَى أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَبَّانٍ فِي كِتَابِ التَّوْبِخِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْجَوَارِ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَفْرَضَكَ أَفْرَضْتَهُ، وَإِنْ اسْتَعَانَكَ أَعْنَتَهُ وَإِنْ احتَاجَ أَعْطَيْتَهُ، وَإِنْ مَرَضَ غُدَّتْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: هَلْ تَفْقَهُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ؟ يُودِّي حَقَّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ۳۴ حضرت ابوشیخ بن حبان علیہ الرحمہ کتاب التوبخ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: انہوں نے فرمایا: کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (۱) اگر تجھ سے وہ قرض مانگے تو اُس کو قرض دو (۲) اگر مدد طلب کرے تو مدد کرو (۳) اگر محتاج ہو تو اُس کو دو اور (۴) اگر بیمار ہو جائے تو

عیادت کرو (پس اسی طرح حدیث شریف بیان کی جیسے آپ اُوپر پڑھ آئے ہیں اور آخر میں اتنا اضافہ ہے)۔ کیا تم سمجھتے ہو جو میں نے تم سے کہا؟ پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں جن پر اللہ (تبارک و تعالیٰ) نے مہربانی کی ہے۔“

رُوِی أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ؟ قَالَ: إِنَّ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ ۳۵  
”حضرت ابو قاسم اصبہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ (تبارک و تعالیٰ) جلّ مجدہ الکریم پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت و تکریم کرے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے؟۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ کوئی چیز طلب کرے تو اُس کو عطا کر دے۔“

بُرے ہمسائے سے پناہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبْکَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِیْ دَارِ الْمُقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِیَةِ یَتَحَوَّلُ ۳۶ ”اے میرے اللہ (جل جلالک)! میں ٹھہرنے والے گھر کے بُرے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بے شک دیہاتی پڑوسی بدلتے رہتے ہیں۔“

قیامت کے قیام کا سبب:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

۳۵ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۷-۳۶۱ الادب المفرد ص ۲۰ (بیروت)، ص ۴۰ (سانگلہ ہل) مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸ ص ۳۵۹، الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۵، متدرک حاکم جلد ۱ ص ۱۲۷، کنز العمال حدیث نمبر ۲۵۶۱۔

رحیم ﷺ نے فرمایا: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَآخَاهُ  
وَأَبَاهُ ۳۷ ”قیامت برپا نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ اپنے ہمسایہ کو، اپنے بھائی کو اور  
باپ کو قتل کرنے لگیں گے۔“

ہمسائی عورت کو ذلیل نہ سمجھنا:

حضرت عمرو بن معاذ الاشہلی رضی اللہ عنہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں  
اُنہوں نے فرمایا: مجھے نبی کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا:

يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةً مِنْكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ  
كُرَاعَ شَاةٍ مَحْرَقٍ ۳۸ ”اے ایمان والی عورتو! تم میں سے کوئی عورت اپنی  
ہمسایہ عورت کی تحقیر نہ کرے چاہے وہ جانوروں کے پلانے کے برتن ہی کے سلسلہ  
میں ہو۔“ یعنی جس برتن سے جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے اُس کے اعلیٰ اور گھٹیا ہو  
نے کا ذکر نہیں کرنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی ہمسائے کو تکلیف ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رؤف و  
رحیم ﷺ نے ارشاد فرمایا: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً  
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرْسَنَ شَاةٍ ۳۹ (الادب المفرد میں یانساء المسلمات کا دو مرتبہ  
ذکر ہے)۔

”اے مسلمان عورتو! کوئی اپنی ہمسائی کی تذلیل و تحقیر نہ کرے اگرچہ وہ  
(حصہ میں) بکری کا کھر بھیجے۔“

یعنی اگر کوئی ہمسائی چھوٹے سے چھوٹا تحفہ بھی بھیجے تو اُس کو حقیر نہیں جاننا  
چاہیے اور نہ ہی بھیجنے والی ہمسائی کی تذلیل کی جائے۔ یاد رہے تحائف دینے میں  
ضروری نہیں کہ تحائف قیمتی ہوں۔ بعض اوقات قیمتی تحائف کا لینا دینا طبعیتوں

۳۸ الادب المفرد ص ۲۱ (بیروت) ص ۴۲ (سانگلہ بل) تفسیر قرطبی جلد ۳ جز ۵ ص ۱۲۲، مسند احمد جلد  
۴ ص ۶۹، جلد ۶ ص ۳۷۷، جلد ۶ ص ۴۳۴، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۹۳۷-۳۹، بخاری جلد ۲ ص  
۸۸۹، مسند احمد جلد ۲ ص ۴۶۴، ۳۰۷، ۴۳۲، ۴۹۳، ۵۰۶، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۴ ص ۱۷۷، جلد ۶  
ص ۱۶۹، ۶۰، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۸۹۰، الادب المفرد ص ۲۱ (بیروت) ص ۴۲ (سانگلہ بل)۔

پر گراں گزرتا ہے جبکہ تحائف کا تبادلہ خوشگوار تعلقات کا مظہر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اڑوس پڑوس سے معمولی تحفہ آنے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں یہ نامناسب ہے بلکہ ہمسایہ کا تحفہ خوش دلی سے قبول کر لینا چاہئے۔ محولہ بالا حدیث شریف میں حقیر جاننے کو اچھا نہیں کہا گیا۔

عمل کے سچے اور حقیقی درس دینے والے پیارے عظیم رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔ حقوق ہمسایہ ادا کرنے والے نہ صرف دینی بلندیاں اور رفعتیں حاصل کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی پرسکون اور پرسرت زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ کے احکامات اور تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم اور رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں بلکہ دیکھا گیا ہے کہ کئی اقسام کی پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں جس سے وہ ذہنی اور قلبی سکون بر باد کر لیتے ہیں۔

### ہمسائے کی وجہ سے ہلاکت:

حضرت ارطاة بن المندر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو عامر حمصی علیہ الرحمہ سے سنا وہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں: مَا مِنْ رَّجُلَيْنِ يَتَصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيُهْلِكُ أَحَدُهُمَا فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ إِلَّا هَلَكَ جَمِيعًا وَمِمَّنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارًا وَيَقْهَرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَّا هَلَكَ ۝۴۰

”جب کبھی دو آدمی ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ مقاطعہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے اور اگر دونوں اسی حالت مقاطعہ میں مر گئے تو دونوں ہی ہلاک ہوئے اور جب کوئی شخص اپنے ہمسایہ پر اتنا ظلم و چیرہ دستی

کرتا ہے کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر چلا جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔  
رسول اللہ ﷺ سے ہمسائے کے بارے میں مدد:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے ہمسایہ کے غلط رویہ سے تنگ آ کر مدد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخص رکنِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے مابین بیٹھا ہوا تھا کہ رسول کریم ﷺ روئے ورجیم ﷺ تشریف لائے۔ اُس شخص نے دیکھا کہ آپ ﷺ ایک سفید پوش شخص کے برابر وہاں کھڑے ہیں جہاں لوگ جنازوں کی نمازیں پڑھا کرتے تھے جب رسول کریم ﷺ روئے ورجیم ﷺ اُدھر تشریف لائے تو اُس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، یہ سفید پوش شخص کون تھا؟ جو آپ ﷺ کے پاس کھڑا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَقْدَرَأَيْتَهُ“ (کیا تم نے اُسے دیکھا؟)۔ قَالَ: نَعَمْ (اُس نے عرض کیا، جی ہاں) قَالَ: رَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا (فرمایا: تم نے خیر کثیر کو دیکھا) ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولُ رَبِّي مَارًا لِيُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ جَاعِلٌ لَهُ مِيرَاثًا ۚ (فرمایا) یہ میرے پیارے رب کریم (جلّٰ سلطانہ) کے فرشتے (حضرت) جبریل امین علیہ السلام تھے جو مجھے (اُمت کے لئے) ہمسائے کے بارے میں (اللہ تبارک و تعالیٰ جلّٰ مجدہ الکریم کا) حکم سنانے حاضر ہوئے تھے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا شاید وہ ہمسایہ کی میراث بھی مقرر کرنے والے ہیں۔

کامل مومن بننے کا نسخہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم ﷺ روئے ورجیم ﷺ نے فرمایا: مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ



أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ ۴۲” کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں لے لے پھر اُن پر عمل کرے یا اُسے سکھا دے جو اُن پر عمل کرے؟

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (صلی اللہ علیہ وسلم) میں حاضر ہوں، فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر پانچ چیزیں گنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ ”حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے۔“

۲۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ آغْنَى النَّاسِ ”اللہ (تبارک و تعالیٰ) کی تقسیم رزق پر جو اُس نے تیرے لئے کر دی، اُس پر راضی ہو جاؤ لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔“

۳۔ وَاحْسِنِ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ”اور اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو کامل مومن بن جاؤ گے۔“

۴۔ وَاحْبِ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ”اور لوگوں کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔“

۵۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ ۴۳ ”اور (قہقہہ مار کر) زیادہ نہ ہنسنا کیونکہ (قہقہہ مار کر) ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔“

**عورت یا گھر میں نحوست:**

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشُّومُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ وَالْفَرَسِ ۴۴ ”نحوست عورت، گھر اور گھوڑے میں ہے“

وَفِي رِوَايَةِ الشُّومُ فِي ثَلَاثَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالِدَّابَّةِ ۴۵

۴۴ مشکوٰۃ ص ۴۴۰، مرآۃ جلد ۷ ص ۱۳، ترمذی حدیث نمبر ۲۳۰۵-۲۳۰۳ مشکوٰۃ ص ۴۴۰۔  
۴۵ مشکوٰۃ ص ۲۶۷، ابن ماجہ حدیث نمبر ۱۹۹۵-۱۹۹۵ مشکوٰۃ ص ۲۶۷، ترمذی حدیث نمبر ۲۸۲۳، مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۱۰۴۔



”اور ایک روایت میں ہے، ‘نحوست تین چیزوں میں ہے۔ عورت، گھر اور جانور میں۔‘

حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے:  
 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَمْنُ وَالشُّومُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ ۚ ”یہ کہ رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا ہے برکت اور نحوست عورت، گھر اور گھوڑے میں ہے۔“

### عورت کی برکت:

(اس کی تفصیل اس طرح ہے) فَيَمْنُ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَهْرِهَا وَيُسْرُ نِكَاحِهَا وَحُسْنُ خُلُقِهَا ”عورت میں برکت یہ ہے کہ اُس کا مہر کم ہو، نکاح آسان ہو اور اخلاق بہترین ہو۔“

### عورت کی نحوست:

وَشُومُهَا غِلَاءُ مَهْرِهَا عُسْرُ نِكَاحِهَا وَسُوءُ خُلُقِهَا ”عورت کی نحوست یہ ہے کہ اُس کا مہر زیادہ ہو، نکاح مشکل ہو اور وہ بد اخلاق ہو۔“

### مکان کی برکت:

وَيَمْنُ الْمَسْكَنِ، سَعَتُهُ وَحُسْنُ جَوَارِ أَهْلِهِ ”مکان کی برکت یہ ہے کہ فراخ ہو اور اُس کے پڑوسی اچھے ہوں

### مکان کی نحوست:

وَشُومُهُ ضَيْقُهُ وَسُوءُ جَوَارِ أَهْلِهِ ”مکان کی نحوست یہ ہے کہ مکان تنگ ہو اور پڑوسی بُرے ہوں۔“

### گھوڑے کی برکت اور نحوست:

وَيَمْنُ الْفَرَسِ ذِلَّةُ وَحُسْنُ خُلُقِهِ وَشُومُهُ صَعُوبَتُهُ وَسُوءُ

خُلِقَ ۴۷ ”گھوڑے میں برکت یہ ہے کہ قابو میں رہے اور عادات اچھی ہوں اور گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ بے قابو ہو اور عادات بُری ہوں۔“

”اس حدیث شریف کے بہت معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، دوسرے یہ کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ اولاد نہ جنے اور خاوند کی نافرمان ہو۔ مکان کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو، وہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو اور اُس کے پڑوسی خراب ہوں۔ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ مالک کو سواری نہ کرنے دے، سرکش ہو۔ بہر حال یہاں شوم سے مراد بدفالی نہیں کہ اُس کی وجہ سے رزق گھٹ جائے یا آدمی مرجائے کہ اسلام میں بدفالی ممنوع ہے۔

خیال رہے کہ بعض بندے اور چیزیں مبارک تو ہوتی ہیں کہ اُن سے گھر میں، مال میں، عمر میں اضافہ ہو جاتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: .... وَاجْعَلْنِي مُبَارَكًا .... (مریم: ۳۱) ”مجھے برکتوں والا بنایا گیا ہے۔“ مگر کوئی چیز اس کے مقابل معنی میں منحوس نہیں۔ ہاں کافر، کفر، زمانہ عذاب، منحوس ہے۔ ”.... فِي يَوْمٍ نَحْسٍ ....“ (القمر: ۱۹) ”ایسے دن میں جس کی نحوست“ ۴۸

ہمسائے کو بکری کے معاملہ میں بھی دُکھ نہ پہنچاؤ:

اُم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو اُس کا شوہر چاہے اور عورت اپنی ذات سے اُسے روک دے، چاہے غصہ کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ عورت کا دل نہ چاہتا ہو تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو اُم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا! ہاں:

إِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكَ أَنْ لَوْ أَرَادَكَ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ ۝

”تمہارے شوہر کا تم پر حق ہے کہ جب تمہیں چاہے تو اپنے آپ کو اُس سے نہ روکو چاہے تم اُس وقت سواری پر ہی ہو۔ یہ بات اور دیگر باتیں فرمانے کے بعد فرمانے لگیں: میں نے نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ کے لئے ٹکیہ پکائی تھی اتنے میں ہمسائے کی بکری کا بچہ آگیا اور ٹکیہ کی طرف بڑھا، میں نے ٹکیہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور بکری کے بچے کو جلدی سے ہٹا دیا تو نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ نے فرمایا: خُذِي مَا أَدْرَكْتَ مِنْ فُرْصِكَ وَلَا تُؤْذِي جَارَكَ فِي شَاتِه ۴۹

”اپنی ٹکیہ جو اٹھالی، رکھ لو اور ہمسایہ کو بکری کے بارے میں دکھ نہ پہنچاؤ“ یعنی ٹکیہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں لیکن بکری یا اُس کے بچے کو مارنا نہیں اس طرح ہمسائے کو تکلیف ہوگی۔ (جب جانوروں کے معاملہ میں ہمسائے کے دُکھ اور خوشنودی کے احساس کی تعلیم دی جا رہی ہے تو خود ہمسائے کے ساتھ کس قدر حُسن سلوک کی تعلیم کا اہتمام ہے۔ اس کا مختلف احکامات اور روایات اور واقعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

وَقَالَ إِذَا أَنْتَ رَمَيْتَ كَلْبَ فَقَدْ آذَيْتَ ۵۰  
 ”اگر تم نے پڑوسی کے کتے کو پتھر مارا تو تم نے اُس (کے کتے اور اپنے پڑوسی) کو ایذا دی۔“

سو ہمسایوں کی بلائیں دُور:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ، ثُمَّ قَرَأَ: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ۵۱ ”نبی کریم

۴۹ الادب المفرد ص ۲۱ (بیروت) ص ۴۱ (سانگلہ ہل)۔ ۵۰ مکاشفۃ القلوب ص ۳۸۲۔ ۵۱ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۶۳، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۴، کنز العمال حدیث نمبر ۲۴۶۵۴، تفسیر طبری جلد ۲ ص ۶۴۶ (طبع جدید)۔

رؤف و رحیم ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) نیک مسلمانوں کی وجہ سے سوگھروں سے، جو اُس کے پڑوس میں ہوتے ہیں، بلائیں دُور فرماتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی قرأت فرمائی ”اور اگر اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) دُور نہ کرتا بعض لوگوں کو بعض کے سبب سے تو اَلتّٰہِ زَمِین میں فساد پیدا ہو جاتا۔“

### شور بہ زیادہ بنانا:

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ نے فرمایا: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ ۵۲ ”اے ابوذر (رضی اللہ تعالیٰ عنک) جب تو گوشت پکائے تو شور بہ زیادہ کر اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھ۔“

صحیح مسلم میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی دوسری روایت میں اس طرح ہے، فرماتے ہیں، إِنَّ خَلِيلِي أَوْ صَانِي إِذَا طَبَخْتَ مَرْقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصْبِهِمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ ۵۳ ”میرے جگری دوست (یعنی نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ) نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب گوشت پکائے تو شور بہ بہت رکھ اور اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھ انہیں اس میں سے بھیج۔“

### ہمسایوں میں سے ترجیح:

حضور نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہمسایوں کو تحائف ارسال فرماتی تھیں، چیز کم یا زیادہ ہونے کا خیال نہ فرماتیں، جو شے ہوتی، چاہے ایک ہی شے ہوتی وہی ہمسایہ کو دے دیتیں۔ حکم یہ تھا کہ پہلے قریبی ہمسایہ کو ہدیہ دیا جائے۔ اس سلسلہ میں اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ ۵۲ مسلم جلد ۲ ص ۳۲۹، تفسیر مظہری جلد ۲ ص ۱۰۴، تفسیر قرطبی جلد ۳ جز ۵ ص ۱۲۱، شرح السنۃ جلد ۳ ص ۴۳۷-۴۳۸، ۵۳ مسلم جلد ۲ ص ۳۲۹، الادب المفرد ص ۲۰ (بیروت) ۳۹ (سانگلہ بل)۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم  
رؤف و رحیم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ  
بَايَهُمَا اَبَدًا قَالَ بِاَدْنَا هُمَا بَابًا ۵۴

”میرے دو ہمسائے ہیں میں کس کے ساتھ پہلے احسان کروں؟ تو آپ  
ﷺ نے فرمایا: جس کا دروازہ قریب ہے۔ (اگرچہ دیوار دُور ہو۔) (الادب المفرد  
میں ایسی دو روایات ہیں۔“

ہمسائے پر ظلم و زیادتی کے گناہ کی سختی:

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قَالَ رَسُولُ  
اللّٰهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ مَا تَقُولُونَ فِي الزَّانَا؟ قَالُوا: حَرَمَهُ اللّٰهُ  
وَرَسُولُهُ وَهُوَ حَرَامٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لِأَنَّ  
يَزْنِي الرَّجُلُ بَعَشْرَ نِسْوَتِهِ اَيَسَّرُ عَلَيْهِ اَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ جَارِهِ قَالَ:  
مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ قَالُوا: حَرَمَهَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ  
قَالَ: لِأَنَّ يَسْرِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ اَبْيَاتٍ اَيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ  
يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ  
وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْاَوْسَطِ - ۵۵ رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ  
نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: اے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنکم) تم  
زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ (تبارک و تعالیٰ  
جلّ مجدہ الکریم) اور اُس کے رسول (کریم رؤف و رحیم ﷺ) نے اس کو حرام  
کیا ہے اور یہ قیامت تک حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، نبی کریم رؤف و  
رحیم ﷺ نے فرمایا: آدمی کا دس عورتوں سے زنا کرنا اُس پر آسان ہو اس سے کہ  
وہ اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ (مطلب یہ کہ دس عورتوں سے زنا کے

۵۴ ابوداؤد جلد ۲ ص ۳۵۴، الادب المفرد ص ۱۹ (بیروت) ص ۳۸، ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۲۵، تفسیر  
مظہری جلد ۱ ص ۱۰۳، تفسیر قرطبی جلد ۳ ص ۱۲۰، شرح السنۃ جلد ۳ ص ۲۳۷، تفسیر درمنثور جلد  
۲ ص ۵۲۹-۵۵ ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۲۵، درمنثور جلد ۲ ص ۵۳۱۔

مقابلے ایک عورت جو ہمسائے میں رہتی ہو اُس سے زنا کرنا بہت بُرا ہے یعنی اُن دس کا گناہ بہت بڑا ہے جبکہ اِس ایک کا گناہ اُن دس سے بھی بڑھ کر ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: تم چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ چوری کو اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور اُس کے رسول (کریم رؤف و رحیم ﷺ) نے حرام قرار دیا ہے اور یہ حرام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا دس گھروں کی چوری کرنا اُس پر آسان ہو اِس سے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ (بالکل ایسے ہی برا ہے جیسے زنا کی مثال دی گئی) (اس حدیث شریف کو امام احمد نے انہی الفاظ سے روایت کیا ہے اور اِس کے تمام راوی ثقہ ہیں طبرانی نے کبیر اور اوسط میں نقل کیا ہے)۔

### بڑے گناہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ ”کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟“ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ”آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔“ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ ”(فرماتے ہیں)، میں نے پھر عرض کیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟“ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ ”فرمایا: اِس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے“ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ ”میں نے عرض کیا پھر کون سا؟“ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ”فرمایا (پھر یہ کہ) تُو اپنی پڑوسن سے زنا کرے۔“ ۵۶ھ اچھائی اور بُرائی پر پڑوسی کی گواہی:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ایک شخص رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا

میں کیسے جانوں جبکہ میں بھلائی کروں یا جبکہ میں بُرائی کروں؟ تو نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ نے فرمایا:

إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ ۝

”جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے بھلائی کی تو تم نے واقعی بھلائی کی اور جب تم انہیں کہتے سنو کہ تم نے بُرائی کی تو واقعی تم نے بُرائی کی۔“

یعنی معاملات میں اچھائی یا بُرائی کی علامت یہ ہے کہ پڑوسی قدرتی طور پر کسی کو اچھا یا بُرا کہیں۔ قدرتی بات ہے کہ بعض بندوں کے لئے خود بخود منہ سے اچھائی نکلتی ہے۔ مسلمان کی زبان رب ذوالجلال والا کرام کا حکم ہے، پڑوسی چونکہ ڈھکے چھپے حالات سے بھی خبردار ہوتے ہیں، اس لئے اس حدیث شریف میں پڑوسیوں کی قید لگائی گئی ہے۔ مخلوق کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب العزت نکلاتا ہے۔ جیسے آج بعض قبروں والوں کو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں حالانکہ انہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔

ہمسائے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ہدایت:

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، أَوْ صَانِي خَلِيلِي ﷺ بَثَلَاثٍ (۱) أَسْمَعُ وَأَطِيعُ وَلَوْ لَعَبْدٌ مُجَدِّعُ الْأَطْرَافِ (۲) وَإِذَا صَنَعَتْ مَرْقَةً فَاکْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَاصْبِهِمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ (۳) وَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى، فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَالْأَفْهَى نَافِلَةٌ ۝۸ ”میرے محبوب دوست (نبی کریم رُوف و رحیم

۵۷ مشکوٰۃ ص ۴۲۴، مرآۃ جلد ۷ ص ۵۷، شرح السنۃ جلد ۶ ص ۴۷۱، مسند احمد جلد ۱ ص ۴۰۲، اسنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱ ص ۱۲۵، ابن حبان حدیث نمبر ۲۰۵۷، کنز العمال حدیث نمبر ۳۹۷۳۰، حلیۃ الاولیاء جلد ۵ ص ۴۳، ابن ماجہ حدیث نمبر ۴۰۲۳، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر ۱۹۷۴۹، مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۲۷۱-۵۸ الادب المفرد ص ۲۰ (بیروت) ص ۳۹ (سائلکۃ بل)، شرح السنۃ جلد ۲ ص ۴۲۔



ﷺ نے مجھے تین باتوں کی ہدایت فرمائی۔ (۱) بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ کان کٹے غلام ہی کی بات ہو۔ (۲) جب شور بہ پکاؤ اور اُس میں پانی زیادہ ہو جائے تو اپنے ہمسایہ گھروں کو دیکھ لو اور اُن کو دے دو اور (۳) اپنے وقت پر نماز پڑھ لو، اس کے بعد اگر دیکھو کہ امام نماز پڑھ رہا ہے یا تو اپنی نماز پر قائم رہو (یا امام کے پیچھے دوبارہ پڑھ لو) اور کچھلی نماز تمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔“

### قیامت کے دن پہلا فیصلہ:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے فرمایا: **أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ** ۵۹ ”قیامت کے دن پہلے جھگڑنے والے دو پڑوسی ہوں گے۔“ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑے چکائے جائیں گے، پہلے اُن کے فیصلے ہو جائیں گے یعنی دوسرے جھگڑوں کے مقابلے میں پڑوسیوں کے جھگڑے پہلے بارگاہِ الہی میں پیش ہوں گے۔ لیکن یہ خیال رہے:

عبادات میں پہلے نماز کا حساب ہوگا۔  
معاملات میں پہلے خون ناحق کا حساب ہوگا۔  
اور حقوق میں پہلے پڑوسیوں کا حساب ہوگا۔

### قیامت کے دن ہمسائے کے خلاف شکایت:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، **لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ أَوْ قَالَ حِينٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالْدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي فَمَنْعَ مَعْرُوفَهُ ۶۰** ”ایک

۵۹ مشکوٰۃ ص ۴۲۵، مرآۃ جلد ۶ ص ۸۵۳، مسند احمد جلد ۴ ص ۱۵۱، المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۳۰۹، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۷۰، جلد ۱۰ ص ۳۷۹، ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۲۵، ۶۰ الادب المفرد ص ۱۹ (بیروت) ص ۳۹ (سانگلہ ہل)، الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۹۔

زمانہ یا فرمایا ایک وقت ہم پر آیا بھی آیا تھا کہ اُس وقت ایک شخص اپنے درہم و دینار کا حق دار اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ کسی اور کو نہ سمجھتا تھا۔ اب وہ وقت آگیا ہے کہ درہم و دینار ہمارے نزدیک مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے رسول کریم رُوف و رحیم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”بہت سے لوگ قیامت کے دن اپنے ہمسائے سے لٹکے رہیں گے (یعنی حساب و کتاب مکمل ہونے اور جنت میں جانے سے رُکے رہیں گے) ہمسایہ کہے گا کہ اے میرے رب! اس شخص نے میرے مقابلے میں اپنا دروازہ بند رکھا اور مجھے اپنے معروف اور مشہور رواجی حسن سلوک سے محروم کر دیا تھا۔“

پڑوسی کے بارے میں پوچھ گچھ:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ عَنِّي بَابَهُ، وَمَنْعَنِي فَضْلَهُ؟ ۱۱ ”نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ نے فرمایا: کتنے ہی پڑوسی ہیں جن کے متعلق اُن کے پڑوسی کہتے ہیں اے رب! اس سے یہ پوچھ کہ اس نے اپنے دروازے کو مجھ پر کیوں بند کیا اور اپنے فضل کو مجھ سے کیوں روکا؟“

ہمسائے کی دیوار کے ساتھ پیشاب کرنے والے کو تنبیہ:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ قَالَ: لَا تَصْحَبُنَا الْيَوْمَ مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَابُلْتُ فِي أَصْلِ حَائِطِ جَارِي فَقَالَ: لَا تَصْحَبُنَا الْيَوْمَ ۱۲ ”رسول کریم رُوف و رحیم ﷺ ایک غزوہ کے لئے نکلے آپ ﷺ نے فرمایا: آج کے دن وہ شخص ہمارا صاحب نہ بنے جس نے اپنے

پڑوسی کو تکلیف دی۔ قوم میں سے ایک شخص نے عرض کیا میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ پیشاب کیا پس آپ ﷺ نے فرمایا: آج وہ شخص ہمارا صاحب نہ بنے۔  
گھر بنانے سے پہلے ہمسایہ ڈھونڈو:

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اَلْتَمِسُوا الْجَارَ قَبْلَ الدَّارِ وَالرَّفِیقَ قَبْلَ الطَّرِیقِ ۶۳ ”گھر بنانے سے پہلے ہمسایہ ڈھونڈو اور راستہ (تلاش کرنے) سے پہلے ساتھی ڈھونڈو۔“

تاکہ مکان کے بنانے کے بعد کسی قسم کا پچھتاوا نہ لگ جائے کہ کیسے ہمسائے ملے ہیں اور سفر میں کوئی ہمدرد نہیں ہے۔  
ہمسائے کی حمایت میں مرنے والا شہید ہے:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلْغَرِیقُ شَهِیدٌ وَالْحَرِیقُ شَهِیدٌ وَالْغَرِیبُ شَهِیدٌ وَالْمَغْلُودُ غَ شَهِیدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِیدٌ وَمَنْ یَقَعُ عَلَیْهِ الْبَیْتُ فَهُوَ شَهِیدٌ وَمَنْ یَقَعُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَتَنْدَقَ رِجْلُهُ اَوْ عُقْبَتُهُ فَمُوتَ فَهُوَ شَهِیدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ اَخِيهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَمَنْ قَتَلَ دُونَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِی عَنِ الْمُنْكَرِ شَهِیدٌ ۶۴

”(۱) غرق ہونے والا شہید ہے (۲) آگ میں حادثاتی طور پر جل کر مرنے والا شہید ہے (۳) پردیس میں مرنے والا شہید ہے (۴) جسے سانپ ڈسے وہ شہید ہے (۵) ہیضہ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے (۶) جس پر گھر (مکان) گرے وہ شہید ہے (۷) جو گھر (مکان) کے اوپر سے گرے اور اُس کی ٹانگ یا

گردن ٹوٹ جائے وہ مر جائے تو وہ شہید ہے (۸) جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے (۹) جو اپنے بھائی کی طرف داری میں مارا جائے وہ شہید ہے (۱۰) جو اپنے ہمسائے کی حمایت میں مارا جائے وہ شہید ہے (۱۱) جس کو اس لئے مارا جائے کہ وہ نیکی کا حکم کرتا ہے اور بُرائی سے منع کرتا ہے وہ شہید ہے۔ رسول کریم رُوف و رحیم ﷺ نے اور لوگوں کے ساتھ ایسے شخص کے لئے بھی شہادت کے درجہ کا اعلان فرمایا ہے جو ہمسائے کی حمایت میں قتل کیا جاتا ہے۔

### سب سے بڑی خیانت:

حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رُوف و رحیم ﷺ نے فرمایا: **أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعٌ مِّنَ الْأَرْضِ تَجَدُّونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعَ أَحَدُهُمَا مِنْ حِظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا مَّاذَا اقْتَطَعَهُ طَوْقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۶۵**

”قیامت کے دن اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کے نزدیک سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ زمین یا گھر کے دو پڑوسیوں کے مابین ایک گز جگہ تھی جسے ایک پڑوسی نے زبردستی اپنے قبضہ میں کر لیا تو جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی ایک گز جگہ پر ناجائز قبضہ کر لے تو قیامت کے روز وہ جگہ سات زمینوں تک اُس کے گلے میں طوق بنائی جائے گی۔“

ایک گز جگہ کو بطور مثال ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنی جگہ کوئی شخص اپنے بھائی یا پڑوسی کے حصّہ سے ناجائز طور پر قبضہ میں لے لے گا، وہ اُس کے باعث مذکورہ بالا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ کا یہ فرمانِ عظیم ہر شخص کے لئے درسِ ہدایت ہے جو کسی ہمسائے یا مسلمان بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اور قبضہ

کرنے کے بعد چوری اور سیدہ زوری کا مظاہرہ بھی کرتا ہے قبضہ کرنے کے لئے قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم کرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ بہت بڑا ظالم ہے!

اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم محبت فرماتا ہے:

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يُحِبُّ الرَّجُلَ لَهُ الْجَارُ السُّوءُ يُؤْذِيْهِ فَيَصْبِرُ عَلٰی اِذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتّٰی يَكْفِيْهِ اللّٰهُ بِحَيَاةٍ اَوْ مَوْتٍ ۚ ”بلاشبہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اُس شخص سے محبت فرماتا ہے جس کا پڑوسی بُرا ہو اور وہ (بُرا پڑوسی) اُسے اذیت پہنچاتا ہو مگر وہ اُس کی اذیت پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) زندگی یا موت کی وجہ سے اُسے کفایت عطا فرمائے۔“

صبر چونکہ بہت ہمت کا کام ہے اس لئے اس کا ثمرہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کی محبت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات صبر کی تکلیف طویل ہوتی ہے مگر صبر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کی طرف دھیان لگانے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کرم کی بات ہے۔

### دس اچھی عادات:

اُم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَكَارِمُ الْاَخْلَاقِ عَشْرَةٌ تَكُوْنُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُوْنُ فِي ابْنِهِ وَتَكُوْنُ فِي الْاَبْنِ وَلَا تَكُوْنُ فِي الْاَبِ وَتَكُوْنُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُوْنُ فِي سَيِّدِهِ يُقَسِّمُهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ صِدْقُ الْحَدِيْثِ وَصِدْقُ الْبَاسِ وَاَعْطَاءُ السَّائِلِ وَ الْمُكَافَافَةُ بِالصَّنَائِعِ وَ حِفْظُ الْاَمَانَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ التَّذَمُّمُ

لِّلْجَارِ وَالتَّذَمُّمِ لِلصَّاحِبِ وَاقْرَاءُ الضَّيْفِ وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ ۛ

”دس اچھی عادات (ایسی) ہیں کہ (کسی) آدمی میں ہوں تو (پوری کی پوری) اُس کے بیٹے میں نہیں ہوتی اگر بیٹے میں ہوں تو باپ میں نہیں ہوتیں، غلام میں ہوں تو اُس کے آقا میں نہیں ہوتیں۔ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اُن کو اُس شخص کا مقسوم بناتا ہے جس کے لئے وہ سعادت مندی کا ارادہ رکھتا ہے (اور وہ عادتیں یہ ہیں): (۱) بات میں سچائی (۲) دلیری میں سچائی (۳) مانگنے والے کو عطا کرنا (۴) احسانات کا بدلہ دینا (۵) امانت کی حفاظت کرنا (۶) رشتہ داری پالنا (۷) بُرے ہمسائے سے کنارہ کشی کرنا (۸) بُرے ساتھی سے الگ رہنا (۹) مہمان کی دعوت کرنا اور سب کی سردار اور (۱۰) حیاء کرنا۔

”کتنا خوش بخت اور عظمت والا وہ شخص ہے جس میں محولہ بالا صفات پائی جائیں۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کی عنایت، مہربانی اور نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ کی نگاہِ کرم سے ہی ممکن ہے۔

اذیت دینے والا پڑوسی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول کریم رُوف و رحیم ﷺ نے فرمایا: مَا كَانَ وَلَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ ۛ ”نہ کوئی مومن ہو اور نہ قیامت کے دن تک کوئی مومن ہوگا مگر یہ کہ اُس کا کوئی نہ کوئی اذیت دینے والا پڑوسی تھا یا ہوگا۔“ یہ آزمائشِ الہی ہے۔ جب نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ کو اذیت دینے والے پڑوسی تھے تو اُمتی بھی اس امتحان سے گزرنے کا ذہن میں رکھے۔ بعض اوقات اچھا بھلا ہمسایہ بھی مخالف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم ایمان رکھنے والے کی مدد فرمائے اور ایمانیات اور اعتقادات کے ساتھ ساتھ

معاملات اور حالات کو درست رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔

### دو بدترین ہمسائے:

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ نے فرمایا: كُنْتُ بَيْنَ شَرِّ جَارَيْنِ بَيْنَ اَبِي لَهَبٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِي مُعِيْطٍ اَنْ كَانَا لِيَا تِيَانَ بِالْفُرُوْثِ حَانَهَا فَيَطْرُقُ عَلٰى بَابِي حَتّٰى اَنْهُمْ لَيَاْتُوْنَ بِبَعْضِ مَا يَطْرَحُوْنَ مِنَ الْاَذٰى فَيَطْرَحُوْنَهُ عَلٰى بَابِي ۶۹ ”میں دو بدترین ہمسایوں ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے درمیان رہتا تھا۔ وہ گوبر لا کر میرے دروازے پر پھینک دیتے تھے حتیٰ کہ لوگوں کی پھینکی ہوئی گندگی بھی لا کر میرے دروازے پر پھینکتے تھے۔“

قارئین کرام اندازہ فرمائیں کس قدر شقی القلب وہ لوگ تھے۔ قادر مطلق چاہتا تو کوئی دنیا کی طاقت رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ کو اذیت نہ پہنچا سکتی، اگر رسول کریم رؤف ورحیم ﷺ ارادہ فرماتے تو آپ ﷺ کی دُعا سے دشمن تباہ و برباد ہو جاتا مگر آپ ﷺ نے اُمت کی تعلیم و تربیت کے لئے صبر و تحمل اور برداشت کا عظیم نمونہ پیش فرمایا تاکہ جب اُمتیوں کو ایسے حالات و واقعات کا سامنا ہو تو وہ اپنے کریم آقا ﷺ کے نقش قدم پر چل کر ربّ ذوالجلال والا کرام کا قرب و خوشنودی حاصل کریں۔

### خوش خلق اور بد خلق ہمسائیوں کا واقعہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانَةً تُكْثِرُ مِنْ صَلَاتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصِيَامِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تَوْذِيْ جِيْرَانِهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَاِنَّ فُلَانَةً يُّذَكِّرُ مِنْ قَلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا، وَاَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْاُثُوَارِ مِنْ



الْأَقِطْ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ۞  
 ”ایک شخص نے نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں انتہائی  
 ادب و احترام سے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) فلاں بی بی کی نماز  
 اور روزے اور صدقات کا بڑا چرچا ہے مگر اُس کی زبان سے لوگ پریشان ہیں۔  
 (یعنی وہ عورت لوگوں کو زبانی تکلیف دیتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، غیبت و چغلی جیسے  
 ذلیل اعمال میں مبتلا ہے۔) تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آگ میں ہے“۔ اُس  
 شخص نے ایک اور عورت کا ذکر کیا جو فرض روزے صدقات و خیرات اور نماز پچگانہ کی  
 ادائیگی میں پختہ ہے لیکن اُس کے پاس نفلی روزے، نماز اور صدقات کی کمی ہے۔ وہ تو  
 پتھر کے کچھ ٹکڑے ہی خیرات کرتی ہے مگر وہ عورت اپنی زبان سے پڑوسیوں کو  
 تکلیف نہیں دیتی تو نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ نے فرمایا: ”وہ جنتی ہے“۔

### ہمسائے کی تکلیف پر صبر اور خاموش احتجاج:

بُرے پڑوسی کی بُرائی ہم سے عمدہ اخلاق کی متقاضی ہے۔ اگر کسی کا  
 پڑوسی بدسلوکی کرے تو جس سے بدسلوکی اور بُرائی ہو رہی ہے وہ صبر کرے اور قوت  
 برداشت سے کام لے اور بُرائی کا جواب بُرائی سے نہ دے۔ اسی ضمن میں حضرت  
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ واقعہ قابلِ توجہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم رُوف و رحیم  
 ﷺ کے پاس آیا اور اپنے ہمسائے کی شکایت کرنے لگا تو: قَالَ اِذْهَبْ فَاصْبِرْ  
 ”آپ ﷺ نے فرمایا: واپس جاؤ اور صبر کرو“۔ وہ شخص دوسری یا تیسری مرتبہ پھر  
 حاضر ہوا اور ہمسائے کے رویے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اِذْهَبْ  
 فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ اے ”جاؤ اور اپنا سامان باہر سڑک پر ڈال دو“۔

۱۔ الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۵۶، مشکوٰۃ ص ۴۲۶، مرآۃ جلد ۶ ص ۵۷۷، الادب المفرد ص  
 ۲۰ (بیروت) ص ۹۱ (سانگلہ ہل) تفسیر درمنثور جلد ۲ ص ۵۲۹۔ ۱۔ ابوداؤد جلد ۲ ص ۳۵۴، الادب  
 المفرد ص ۲۱ (بیروت) ص ۴۲ (سانگلہ ہل)، مکاشفۃ القلوب ص ۳۸۳ (عربی)۔

اُس نے ایسا ہی کیا اور مال و اسباب گھر سے نکال کر باہر سڑک پر رکھ دیا لوگ اُدھر سے گزرتے اور اُس سے پوچھتے۔ معلوم ہونے پر لوگ اُس تنگ کرنے والے ہمسائے کو لعنت ملامت کرتے۔ اُس کے لئے بددعا کرتے کہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اُسے ایسا کرے، ایسا کرے۔ اس پر وہ ہمسایہ آیا اور اُس کو واپس گھر آنے کے لئے کہا کہ اپنے گھر چلو، اب میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہیں ناگوار گزرے۔“

### چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْفَأَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعِيَ عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان ۚ ۲

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھیک سے بچنے کے لئے حلال روزی تلاش کرے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لئے اپنے گھر والوں پر کوشش کرے وہ قیامت کے دن اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) سے ایسے ملے گا کہ اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا اور جو مال بڑھانے، فخر و تکبر کرنے اور دکھاوے کے لئے حلال دنیا طلب کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) سے ملے گا حالانکہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اُس سے ناراض ہوگا۔“

### ایک اور واقعہ:

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ۲ مشکوٰۃ ص ۴۴۴، کنز العمال حدیث نمبر ۹۲۴۵، حلیۃ الاولیاء جلد ۳ ص ۱۱۰، مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۷ ص ۱۶ (طبع قدیم)۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ قَالَ: اطْرَحْ مَتَاعَكَ عَلَى طَرِيقٍ فَطَرَحَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَيَلْعَنُونَهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: وَمَا لَقِيتُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يَلْعَنُونَنِي، قَالَ قَدْ لَعَنَكَ اللَّهُ قَبْلَ النَّاسِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَعُودُ، فَجَاءَ الَّذِي شَكَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْفَعْ مَتَاعَكَ، فَقَدْ كُفِّيتَ ۳

”ایک شخص اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے کے لئے بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا: تو راستے میں اپنا مال چھوڑ دے (یعنی رکھ دے) پس اُس نے چھوڑ دیا (یعنی رکھ دیا) اور لوگ اُس پر گزرتے (اور جس کی وجہ سے یہ سامان راستے میں رکھا تھا اُسے) بُرا بھلا کہتے پھر وہ نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں آیا، اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) میں لوگوں سے ملا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تحقیق اللہ (تبارک و تعالیٰ) نے لعنت کی تجھ پر لوگوں کی لعنت سے پہلے اُس شخص نے عرض کیا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ (جب تک وہ شخص اپنا سامان گھر نہ لے جائے۔) پھر وہ شخص آیا جس نے نبی کریم رُوف و رحیم ﷺ سے شکایت کی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو اپنا سامان اٹھا لے پس تحقیق وہ تجھے کفایت کرے گا۔“ (یا تیرا بدلہ ہو گیا)۔

ہمسائے کی دیوار اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ:

حضرت صیمری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں اپنی دیوار میں موکھا پھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: پھوڑ لو لیکن ہمسایہ کے گھر نہ دیکھو۔ وہ ہمسایہ قاضی ابن ابی لیلیٰ علیہ الرحمہ کے پاس گیا۔ قاضی نے دیوار کے مالک کو موکھا پھوڑنے سے منع کر دیا۔ وہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا،

آپ نے فرمایا: تم اُس جگہ دروازہ کھولو۔ ہمسایہ پھر قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے دروازہ کھولنے سے روکا، مکان والا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا۔ قاضی نے روک دیا ہے آپ نے پوچھا تیری دیوار کی قیمت کیا ہے؟ اُس نے تین دینار بتائی۔ آپ نے اُس سے فرمایا: لویہ رقم اور ساری دیوار گرا دو۔ چنانچہ وہ دیوار گرانے لگا۔ ہمسایہ قاضی کے پاس پہنچا اور قاضی سے کہا، وہ اپنی دیوار گرا رہا ہے۔ ہمسائے نے کہا، ہاں! قاضی نے دیوار کے مالک سے کہا جاؤ، اپنی دیوار گراؤ اور جیسی چاہو بناؤ۔ پڑوسی نے قاضی سے کہا کہ آپ نے موکھے کے وقت کیوں روکا تھا وہ تو کم معاملہ تھا۔ قاضی نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں دیوار والا ایسے شخص کے پاس جاتا تھا جو میری خطا کو پکڑتا ہے۔ ۴

### دہلی کے حاکم کا واقعہ:

دہلی کے ایک حاکم نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء (رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف) کے پاس دفن کر دینا۔ چنانچہ (وہ فوت ہوا تو) وہیں دفن کیا گیا۔ اُس کے مرنے کے بعد (اُس کے گھر والوں میں سے) کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء (رحمہ اللہ تعالیٰ) گڑ گڑا کر بارگاہِ الہی میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ وہ میرے پاس اس امید سے آیا ہے کہ تو اس کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم نے اُس کو بخش دیا۔ ۵

### حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ:

ایک یہودی جو آپ کا پڑوسی تھا وہ کہیں سفر پر چلا گیا اُس کی بیوی جو غربت کے ہاتھوں پریشان تھی رات کو چراغ تک روشن نہ کر سکتی اور تاریکی کی وجہ سے اُس کا بچہ رات کو روتا رہتا۔ آپ نے اُس کے بچے کے رونے کی وجہ پوچھی، عورت نے وجہ بتائی، چنانچہ آپ ہر رات اُس کے یہاں چراغ کو روشن کر دیتے۔ جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اُس کی بیوی نے حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے

حسن سلوک کا واقعہ سنایا جس کو سن کر اُس کے دل میں تبدیلی پیدا ہوئی اُس نے کہا یہ بات کس قدر افسوس ناک ہے کہ اتنا عظیم بزرگ ہمارا پڑوسی ہو اور ہم گمراہی میں زندگی گزاریں۔ چنانچہ میاں بیوی آپ کے دست ہدایت پر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ ۶۷

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت:

إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي وَيَشْتُمُنِي وَيُضَيِّقُ عَلَيَّ فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ هُوَ عَصَى اللَّهَ فِيكَ فَاطَعَ اللَّهَ فِيهِ ۷۷ ”ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اُنہوں نے فرمایا: جاؤ اگرچہ اُس نے تیرے بارے میں اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کی نافرمانی کی ہے مگر تم اُس کے بارے میں اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) کی فرمانبرداری کرو۔“

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ:

ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرایہ پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے حجرہ کے متصل تھا۔ یہودی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لئے ایک پرنا لے بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈال دیتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جاتی۔ وہ یہودی بڑے عرصہ تک ایسا ہی کرتا رہا۔ لیکن آپ نے کبھی شکایت نہ کی۔ ایک دن اُس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنا لے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا: پرنا لے سے جو غلاظت گرتی ہے میں اُسے روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لئے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت اٹھانے کے بعد کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کا یہ حکم ہے جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف یہ کہ اُن کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں بلکہ اُنہیں اجر و ثواب سے بھی

نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا دین بہت عمدہ ہے۔ کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ۸۔

پڑوسی کی اقسام اور غیر مسلم پڑوسی کا حق:

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ فَجَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ وَهُوَ اَدْنَى الْجِيرَانِ حَقًّا وَجَارٌ لَهُ حَقَّانٌ وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةٌ حُقُوقٌ فَاَمَّا الَّذِي حَقٌّ وَاحِدٌ فَجَارٌ مُشْرِكٍ لَا رَحْمَ لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ وَاَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانٌ فَجَارٌ مُسْلِمٍ لَهُ حَقُّ الْاِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَاَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةٌ حُقُوقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحْمٍ لَهُ حَقُّ الْاِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الرَّحْمِ ۹۔ ”رسول کریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تین اقسام اور تین درجوں کے ہوتے ہیں۔

(۱) ایک وہ پڑوسی ہے جس کا صرف ایک ہی حق ہو اور وہ حق کے لحاظ سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔

(۲) دوسرا وہ پڑوسی ہے جس کے دو حق ہیں اور

(۳) تیسرا وہ پڑوسی ہے جس کے تین حق ہیں۔

ایک حق والا وہ پڑوسی ہے جو مشرک ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہیں اُس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو اُس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو اُس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا دوسرا پڑوسی ہونے

۸۔ تذکرۃ الاولیاء فارسی ص ۴۴ (چھاپہ طبع فی مطبعة فی المدینۃ لیدن)۔ ۹۔ کنز العمال حدیث نمبر ۹۱۲۷، حلیۃ الاولیاء جلد ۵ ص ۲۰۷، ابن کثیر جلد ۱ ص ۴۲۵، تفسیر مظہری جلد ۲ ص ۱۰۳، تفسیر قرطبی جلد ۳ جز ۵ ص ۱۲۰، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۶۴۔

کا اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا۔

اس حدیث شریف میں پڑوسیوں کے حقوق کی وضاحت فرمادی گئی ہے اور اُن کے اکرام اور رعایت و حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس میں غیر مسلم پڑوسی کے حقوق بھی بیان کئے گئے ہیں جو پڑوسی ہونے کے ناطے سے اُسے حاصل ہیں۔ اُن کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ سمجھا ہے۔ واقعہ ملاحظہ ہو۔

پڑوسی کا یہ حق بھی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کی جائے:

پڑوسیوں کے حقوق کا تعلق دنیاوی معاملات تک ہی نہیں بلکہ اگر کسی کے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو دینی تعلیم و تربیت اور اپنی عملی اور اخلاقی حالت کے لحاظ سے پسماندہ ہوں تو دین دار اور پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اُن کی تعلیم و تربیت اور اُن کی اصلاح کی فکر و کوشش کریں۔ اگر وہ معاملہ میں کوتاہی کریں گے تو مجرم ہوں گے نیز سزا کے لائق بھی ہوں گے۔

حضرت علقمہ بن عبد الرحمن بن ابزی نے اپنے والد عبد الرحمن کے واسطے سے اپنے دادا ابزی خزاعی سے روایت کی ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: مَابَالَ أَقْوَامٍ لَا يَفْقَهُونَ جِيرَانَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَهُمْ وَلَا يَعْظُونَ بِهِمْ وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ وَمَابَالَ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ قَوْمَ جِيرَانِهِمْ وَلَا يَتَفَقَّهُوهُمْ وَلَا يَتَعْظُونَ وَاللَّهِ لَيَعْلَمَنَّ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَفْقَهُوهُمْ وَيَعْظُونَهُمْ وَيَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوهُمْ وَيَتَعْظُونَ أَوْ لَا عَاجِلَ لَنَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا ۝۸۰

”رسول کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن (اپنے خاص خطاب مبارک میں) ارشادِ عظیم فرمایا، کیا ہو گیا ہے اُن لوگوں کو اور کیا حال ہے اُن



کا) جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم نے علم و فقہ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اُن کے پڑوس میں ایسے پسماندہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم اور اُس کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔) وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور اُن میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اُن کو دَعْوۃ و نصیحت کرتے ہیں، نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور کیا ہو گیا ہے اُن (بے علم اور پسماندہ) لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے علم سیکھنے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے اور نہ اُن سے نصیحت لیتے ہیں؟ اللہ (وَعَلَّیْکَ) کی قسم! (دین کا علم اور اُس کی سمجھ رکھنے والے) لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے (ناواقف اور پسماندہ) پڑوسیوں کو دین سکھانے اور اُن میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور وعظ و نصیحت (کے ذریعے اُن کی اصلاح) کریں اور اُنہیں نیک کاموں کے کرنے کی تاکید کریں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور اسی طرح اُن ناواقف اور پسماندہ پڑوسیوں کو چاہئے کہ وہ خود طالب علم بن کر اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم و فہم حاصل کریں اُن سے نصیحت لیں یا پھر (اگر یہ دونوں طبقے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے) تو میں اُن کو دنیا ہی میں سخت سزا دلاؤں گا۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ نے علاقہ کے اُن لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہوں اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنے پڑوس کے ناواقف لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے اُن کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اور اسی طرح ناواقف لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنے پاس پڑوس کے اہل علم اور اہل دین سے تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لئے رابطہ رکھیں۔

اگر رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ کی ہدایات پر عمل جاری رہتا تو اُمت کے کسی طبقہ میں بھی دین سے بے خبری اور اللہ (تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم) اور رسول کریم رؤف و رحیم ﷺ سے وہ دُوری نہ ہوتی جس میں آج اُمتِ محمدیہ

ﷺ کی غالب اکثریت مبتلا ہے۔ بلاشبہ وقت کا سب سے بڑا اصلاحی اور تجدیدی کارنامہ یہی ہے کہ اُمت میں صحیح عقائد اور اچھے اعمال کے لئے تعلیم کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں جو اپنے قرب و جوار اور دُور و نزدیک صحیح عقائدِ اسلامیہ اور اعمالِ صالحہ کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف ہیں۔

احتیاطیں اور مرویتیں:

وَلَا يَتَطَّلَعُ مِنَ السَّطْحِ إِلَى عَوْرَاتِهِ وَلَا يُضَايِقُهُ فِي وَضْعِ الْجَذَعِ عَلَى جِدَارِهِ وَلَا يَصُبُّ الْمَاءَ فِي مِيزَابِهِ وَلَا يَطْرَحُ التُّرَابَ فِي فَنَائِهِ وَلَا يُضَيِّقُ طَرِيقَهُ إِلَى الدَّارِ وَلَا يَتَّبِعُهُ النَّظْرُ فِيمَا يَحْمِلُهُ إِلَى دَارِهِ وَيَسْتَرُّ مَا يَنْكَشِفُ لَهُ مِنْ عَوْرَاتِهِ وَيَنْعِشُهُ مِنْ صُرْعَتِهِ إِذَا نَابَتْهُ نَائِبَةٌ وَلَا يَغْفُلُ عَنْ مُلَاحَظَةِ دَارِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَلَا يَسْمَعُ عَلَيْهِ كَلَامًا وَيَغْضُ بَصَرَهُ عَنْ حُرْمَتِهِ وَلَا يُدِيمُ النَّظْرَ إِلَى خَادِمَتِهِ وَيَتَلَطَّفُ بِوَلَدِهِ فِي كَلِمَتِهِ وَيَرْشُدُهُ إِلَى مَا يَجْهَلُهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ۝۸۱

”پڑوسی کی چھت اور صحن میں نہ جھانکا جائے۔ اُس کی دیوار پر جانور کا چھوٹا بچہ رکھ کر اُسے تنگ نہ کیا جائے۔ اُس کے صحن میں مٹی نہ پھینکے۔ اُس کے گھر کی طرف جانے کا راستہ تنگ نہ کیا جائے۔ جو چیز وہ گھر میں لے جا رہا ہو اُس پر نظر نہ رکھی جائے۔ اُس کے سامنے اُس کا پردہ نہ کھولے (تاکہ مخفی بات ظاہر نہ ہو جائے) اُس پر غور فرمائیں۔ اگر کوئی آفت آپڑے تو اُس سے تعاون کیا جائے۔ اُس کی غیر حاضری میں اُس کے گھر کا دھیان رکھا جائے۔ اُس کی بیوی اور بچیوں سے نگاہ نیچی رکھی جائے۔ اُس کی نوکرانی پر نظر نہ جمائے۔ اُس کے بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے کلام کیا جائے۔ دین میں جاہل ہو تو اُسے صحیح راہ بتائی جائے۔ اِس طرح دنیا میں درست مشورے دیئے جائیں۔“

## دین حنیف کا ترجمان

# ماہنامہ سیدھا راستہ لاہور

عقائد کی پختگی اور اعمال کی درستگی کے لئے

عام فہم، آسان اور سلیس اردو میں بیسیوں

حوالہ جات سے مزین، دورِ جدید میں

منفرد حیثیت کا حامل

زیرِ ادارت

خادمِ دینِ اسلام

منیر احمد لوہی (ایم۔ اے)

ملنے کا پتا: جامع مسجد نمینہ 977-A، بلاک B-III،

گجر پورہ سکیم لاہور 0300-4274936

## ہفتہ وار تعلیمی، تربیتی اور روحانی اجتماع

اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ مجدہ الکریم کے فضل و کرم اور نبی کریم رؤف و رحیم ﷺ کی عنایات سے نور علم سے فیض یاب ہونے کے لئے ہر ہفتہ کے دن  
مغرب تا رات 10:30 بجے جامع مسجد گنبد A-977 بلاک B-III  
گجر پورہ سکیم لاہور میں تشریف لائیں۔

اس تربیتی، تعلیمی و روحانی اجتماع کا مقصد دینی بھائیوں کو دعوت و تبلیغ  
کا طریقہ کار سکھانا اور عقائد کی چٹنگی و اعمال کی درستگی کی تحریک پیدا کرنا ہے۔  
مفتیان دین اور علماء کرام تربیتی خطابات فرماتے ہیں۔

خادم دین اسلام

(ایم۔ اے۔)

منیر احمد یوسفی

خصوصی بیان

ایڈیٹر ماہنامہ ”سیدھا راستہ“ لاہور

الانجمن اشاعت دین اسلام لاہور (پنجاب)

042-36880027-28، 0300-4274936

اشاعت دین اسلام کے لیے آپ اپنے عطیات اس بینک اکاؤنٹ میں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔

بینک اکاؤنٹ نمبر 06180017185303 حبیب بینک شاد باغ لاہور۔